

اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ علماء دیوبند کی متنازعہ عبارات
غیر مقلدین کے نزدیک بھی گستاخانہ ہیں

اہلِ سُنَّت کی حقانیت کا غیر مقلدین سے ثبوت

مؤلف

ملیثم عباس قادری رضوی

تقریظ

شیخ الحدیث حضرت علامہ
مولانا مفتی حنیف خان رضوی

صدر المدینہ ہاموادیہ رضویہ ہری پٹی شریف

باہتمام

ضیغم اسلام قاطع بد مذہبیت

حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری



اس کتاب میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ ماضی میں دیوبندیوں کی تکفیر پر اہل سنت و جماعت کو مطعون کرنے والے غیر مقلد و ہابی علماء نے اکابر دیوبند کی متنازع عبارات کو گستاخانہ قرار دے کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا مفتی الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید کر دی ہے۔

اہل سنت کی حقانیت کا غیر مقلدین سے ثبوت

مؤلف

میثم عباس قادری رضوی

تقریظ

شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف خان رضوی مدظلہ العالی

صدر المدرسین جامعہ نوریہ رضویہ، بریلی شریف

باہتمام

ضیغم اسلام قاطع بد مذہبیت حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری مدظلہ العالی

ادارہ تحفظ عقائد اہل سنت و جماعت، پاکستان

بلا تعیّر و تبدل یہ کتاب شائع کرنے کی عام اجازت ہے

اہل سنت کی حقانیت کا غیر مقلدین سے ثبوت	:	نام کتاب
میٹم عباس قادری رضوی	:	مؤلف
۲۰۱۳ء / ۱۴۳۳ھ انور یہ الرضویہ پبلشنگ کمپنی	:	طبع اول
	:	لاہور
جون ۲۰۱۶ء / رمضان المبارک ۱۴۳۷ھ	:	طبع دوم
ضیغِ اسلام قاطع بد مذہبیت حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری مدظلہ العالی	:	باہتمام
	:	صفحات
۸۰	:	قیمت
	:	سلسلہ اشاعت نمبر
۸	:	تعداد
ایک ہزار	:	ناشر
ادارہ تحفظ عقائد اہل سنت و جماعت، پاکستان	:	

انظہارِ تشکر

یہ کتاب ضیغِ اسلام قاطع بد مذہبیت حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری مدظلہ العالی کے مالی تعاون سے شائع ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس دینی تعاون پر آپ کو اجرِ عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ اٰلِهِ وَ سَلَّمَ

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
☆	شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف خان رضوی مدظلہ العالی
۸	صدر المدرسین جامعہ نوریہ رضویہ، بریلی شریف
☆	خلیفہ حضرت تاج الشریعہ مفتی اعظم اتراکھنڈ فاضل اجل حضرت علامہ
۱۲	مولانا مفتی ذوالفقار خان نعیمی مدظلہ العالی
☆	خلیفہ مجاز حضرت سیدی تاج الشریعہ و خانقاہ عالیہ قادریہ واحدیہ چشتیہ، بلگرام شریف
۱۳	حضرت علامہ مولانا مفتی راحت خان قادری شاہجہا پوری مدظلہ العالی
☆	حضرت مولانا ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی مدظلہ العالی (مالیگاؤں، انڈیا)
☆	عرض مؤلف
۱۹	☆
☆	علمائے دیوبند کی غیر مقلدین کے ساتھ فکری ہم آہنگی
۲۵	☆
☆	غیر مقلدین کی علمائے دیوبند کے ساتھ فکری ہم آہنگی
۲۶	☆
☆	مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی کتاب ”تحدیر الناس“ کی انکارِ ختم نبوت پر
☆	مبنی عبارات کا رد غیر مقلد علماء سے
۳۰	☆
☆	غیر مقلدین کے مزعومہ ”شیخ العرب والعجم“ مولوی بدیع الدین راشدی کی طرف
☆	سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم نبوت ہونے کا فتویٰ
۳۰	☆
☆	غیر مقلد مولوی بیچی گوندلوی کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم نبوت
☆	ہونے کا فتویٰ
۳۱	☆
☆	غیر مقلد مولوی خواجہ قاسم کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم نبوت ہونے
☆	کا فتویٰ
۳۲	☆

- ☆ مولوی زبیر علی زئی کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ ۳۳
- ☆ مولوی زبیر علی زئی کے نزدیک اثر ابن عباس شاذ و مردود روایت ہے ۳۳
- ☆ مولوی عبدالمنان شورش کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ ۳۴
- ☆ مولوی عبدالغفور اثری کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ ۳۵
- ☆ سعودی عرب سے شائع شدہ کتاب میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی تردید ۳۵
- ☆ مولوی طالب الرحمان غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ ۳۶
- ☆ مولوی شفیق الرحمن زیدی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ ۳۷
- ☆ مولوی توصیف الرحمان راشدی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ ۳۸
- ☆ مولوی محمود سلفی کی طرف سے اہل سنت کے موقف کی تائید ۳۸
- ☆ مولوی محمود سلفی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ ۳۹
- ☆ مولوی عطاء اللہ ڈیروی کی طرف سے دیوبندی مجلس تحفظِ ختمِ نبوت کا رد ۳۹
- ☆ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے ذمہ دار دیوبندی علماء ہیں، غیر مقلد مولوی عطاء اللہ ڈیروی ۴۱
- ☆ مولوی طیب الرحمان زیدی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ ۴۳

- ☆ مولوی داؤد ارشد غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختم نبوت ہونے کا فتویٰ ۴۳
- ☆ مولوی عبدالستار نیازی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختم نبوت ہونے کا فتویٰ ۴۴
- ☆ کیپٹن مسعود الدین عثمانی غیر مقلد کے پیروکار کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر ختم نبوت کے منکر ہونے کا فتویٰ ۴۸
- ☆ مشہور وہابی نجدی عالم تقی الدین ہلالی کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختم نبوت ہونے کا فتویٰ ۴۹
- ☆ تحذیر الناس کی ایک اور گستاخانہ عبارت کا رد غیر مقلدین کے قلم سے ۵۰
- ☆ وہابی نجدی عالم تقی الدین ہلالی کی طرف سے ”تحذیر الناس“ کی عبارت (اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ ۵۰
- ☆ مولوی عبدالرؤف غیر مقلد کا ”تحذیر الناس“ کی عبارت (اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ ۵۳
- ☆ مولوی عبدالغفور اثری غیر مقلد کا ”تحذیر الناس“ کی عبارت (اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ ۵۳
- ☆ مولوی ڈاکٹر طالب الرحمان غیر مقلد کا ”تحذیر الناس“ کی عبارت (اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ ۵۴
- ☆ مولوی عبدالستار نیازی غیر مقلد کا ”تحذیر الناس“ کی عبارت (اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ ۵۵
- ☆ اشرف علی تھانوی دیوبندی کی کتاب ”حفظ الایمان“ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی پر مبنی عبارت کا رد مولوی زبیر علی زئی غیر مقلد کے قلم سے .. ۵۶
- ☆ مولوی اشرف علی تھانوی اور اس کے کلمہ گوکار، وہابی نجدی عالم تقی الدین ہلالی کے قلم

- ۵۷..... سے
- ☆ مولوی اشرفعلی تھانوی اور اس کے کلمہ گوکار، وہابی نجدی عالم حمود بن عبداللہ بن حمود التویجری کے قلم سے
- ۶۰.....
- ☆ مولوی اشرفعلی تھانوی اور اس کے کلمہ گوکار، مولوی طالب الرحمان غیر مقلد کے قلم سے
- ۶۱.....
- ☆ وہابی، دیوبندی عقیدہ امکان کذب باری تعالیٰ کا رد مولوی زبیر علی زئی کے قلم سے
- ۶۱.....
- ☆ مولوی عبدالمنان شورش غیر مقلد کی طرف سے وہابی، دیوبندی عقیدہ امکان کذب باری تعالیٰ کا رد
- ۶۳.....
- ☆ قاری حفیظ الرحمان غیر مقلد کی طرف سے وہابی، دیوبندی عقیدہ امکان کذب باری تعالیٰ کا رد
- ۶۳.....
- ☆ مولوی زبیر علی زئی، مولوی عبدالمنان شورش اور قاری حفیظ الرحمان سے ایک استفسار.....
- ☆ مولوی رشید احمد گنگوہی و مولوی خلیل احمد انڈیٹھوی کی کتاب ”براہین قاطعہ“ کی گستاخانہ عبارت کا رد
- ۶۶.....
- ☆ ”براہین قاطعہ“ کی عبارت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی توہین ہے: مولوی زبیر علی زئی غیر مقلد کا مؤقف
- ۶۶.....
- ☆ مولوی رشید احمد گنگوہی و دیوبندی کے اللہ تعالیٰ سے متعلق جھوٹے دعویٰ کا رد
- ۶۷.....
- ☆ شورش صاحب اک نظر ادھر بھی
- ۶۷.....
- ☆ غیر مقلد مولوی زبیر علی زئی کی طرف سے قاری طیب دیوبندی کا رد
- ۶۹.....
- ☆ غیر مقلد ڈاکٹر طالب الرحمن کی طرف سے قاری طیب دیوبندی کا رد
- ۷۰.....
- ☆ دیوبندیوں کے پیچھے نماز باطل ہے: مولوی زبیر علی زئی و دیگر اکابر غیر مقلد علماء



- کا مؤقف ۷۱
- ☆ ”البریلویت“ میں علمائے دیوبند کی وکالت کرنے والے مولوی احسان الہی ظہیر
- غیر مقلد نے علمائے دیوبند کو قابلِ امامت نہ سمجھا ۷۱
- ☆ مولوی طالب الرحمان غیر مقلد کے نزدیک دیوبندیوں کے پیچھے نماز باطل ہے .. ۷۲
- ☆ تمام غیر مقلد وہابی علماء سے ایک اہم استفسار ۷۲

تقاریرِ علمائے اہلِ سنت و جماعت

انکشافِ حقیقت

شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف خان رضوی مدظلہ العالی

صدر المدرسین جامعہ نوریہ رضویہ، بریلی شریف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم

متحدہ ہندو پاک میں وہابیت کا پودا مولوی اسمعیل دہلوی نے اپنی کتاب ”تقویۃ الایمان“ کے ذریعے کاشت کیا، جس میں خود ساختہ توحید کے ذریعے محبوبانِ خدا انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کی شانوں میں وہ کلمات خبیثہ لکھے جو کبھی مسلمانوں نے سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ کوئی مسلمان کہلانے والا ایسا بھی بک سکتا ہے۔ بلکہ حضور سید المرسلین علیہ التحیۃ و التسلیم کی شان اقدس میں بھی وہ نازیبا جملے لکھے جو صریح کفریات پر مشتمل ہیں، کہیں حضور کے علم غیب کا انکار تو کہیں حیات النبی کی تردید، کہیں ان کو گاؤں کے چودھری اور بڑے بھائی جیسی اہمیت دی اور کہیں آپ کے مثل سیکڑوں ممکن الوجود ہونے کا قول کیا، غرض کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقدس دور سے لے کر تیرھویں صدی تک اساطین ملت جن عقائدِ حقہ اور پاکیزہ معمولات کی تعلیمات سے امت مسلمہ کو روشناس کراتے آئے تھے ان سب کو نہایت بے باکی کے ساتھ اس کتاب میں شرک و بدعت لکھ دیا، اور خواص و عوام سب کو مشرک و بدعتی بنا ڈالا۔ لہذا یہ کتاب مسلمانوں کی ایمانی قوت کو مضبوط و مستحکم تو کیا بناتی اس نے تو ایمان کو فوت کرنے کا سامان فراہم کیا، اسی لیے اہل حق نے اس کا نام ”تقویۃ الایمان“ کے بجائے ”تقویۃ الایمان“

رکھا۔ اور بلاشبہ یہ کتاب ایسی ہی ہے جس نے نہ جانے کتنوں کے ایمان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اسی کتاب میں ایک جگہ لکھا کہ ”اس اللہ کی تو یہ شان ہے کہ چاہے تو ایک آن میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جیسے سیکڑوں پیدا کر ڈالے“۔ اس جملہ کا مطلب غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی سے اس وقت پوچھا گیا جب وہ بلند شہر کے علاقے میں تقریریں کرتے پھر رہے تھے، تو آں جناب نے جواب میں حضرت عبد اللہ بن عباس کی طرف منسوب وہ حدیث سنائی جس میں اس زمین کے سوا باقی چھ زمینوں میں مخلوق خدا کے رہنے بسنے اور ان کی ہدایت کے لیے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کے مثل چھ چھ افراد رہنے کا ذکر ہے، لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ جیسے چھ مثل موجود تھے۔

حضور حافظ بخاری حضرت علامہ شاہ سید عبدالصمد صاحب قبلہ بیان فرماتے ہیں:

”اصل ماجرا یہ ہے کہ چند سال پیشتر مولوی نذیر حسین صاحب ضلع بلند شہر میں بہ تقریب دورہ وارد ہوئے اور عوام کو بہکایا اور سمجھایا کہ حدیث شریف سے موجود ہونا امثال آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثابت ہے، جب یہ خبر وہاں مشہور ہوئی تو اہل علم نے حال اس حدیث کا ان لوگوں سے بیان کیا، انھوں نے مولوی نذیر حسین صاحب سے کہا۔ مولوی صاحب نے سن کر سکوت کیا“۔ (افادات صمدیہ، ص ۵)

آگے کے واقعات نہایت تفصیل طلب ہیں، اجمالاً یہ ہے کہ میاں نذیر حسین کی بیان کردہ حدیث کا حال وہ تو نہ بتا سکے مگر سہواً ضلع بدایوں کے مولوی امیر حسن اور ان کے بیٹے مولوی امیر احمد سہوانی نے اس کے ثبوت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور آخر کار حافظ بخاری سے سہواً ہی میں اس موضوع پر مباحثہ ہوا جس میں امیر حسن وغیرہ کو منہ کی کھانی پڑی اور کوئی حتمی ثبوت فراہم نہ کر سکے، اس کے بعد یہ مسئلہ بدایوں پہنچا اور تاج الفحول سے شیخوپورہ کے مقام پر مناظر ہوا جس میں امیر احمد کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ شومی قسمت سے بریلی میں مقیم مولوی احسن نانوتوی نے اس مسئلہ کو خوب ہوا دی اور اپنی تقریروں سے

پورے بریلی شہر کی فضا کو مکدر کر دیا۔ یہ زمانہ سیدنا علی حضرت کے والد ماجد رئیس الاقتیاء علامہ نقی علی خاں علیہما الرحمۃ والرضوان کا تھا، آپ نے بھی اس کا بھرپور تعاقب کیا اور ”اصلاح ذات بین“ کے نام سے ایک اشتہار دے کر نانوتوی کے فتنہ کو ٹھنڈا کر دیا، نتیجہ کے طور پر نانوتوی صاحب کو یہاں سے بھاگتے ہی بنی، بے چارہ مولوی احسن اپنا ایمان برباد کر کے اپنی جان بچا کر تو یہاں سے چلا گیا مگر آگے چل کر نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کی تباہی کا سامان کر گیا۔ یہی احسن نانوتوی ہے جس کے ساتھی مولوی قاسم نانوتوی تھے، انھوں نے اپنے ساتھی کی حمایت کا بیڑا اٹھایا اور دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے ”تخذیر الناس“ لکھ ڈالی جس میں خاتمیت محمدی کا کھلے الفاظ میں انکار کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہ سب کچھ مولوی اسمعیل دہلوی کی مذکورہ بالا ایک لائن کی عبارت کا شاخسانہ ہے جس نے یہاں تک آگ لگائی۔

اسی طرح تقویۃ الایمان میں علم غیب رسول کے انکار کا شوشہ چھوڑا گیا تو بعد میں مولوی اشرف علی تھانوی نے کھلی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں اور پانگوں کے علم جیسا لکھ ڈالا۔ یہی حال مولوی اسمعیل دہلوی کی اتباع میں مولوی رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد انبیٹوی کا ہوا کہ ان دونوں نے امکان کذب الہی کا قول بلکہ وقوع مان لیا، اور اپنی رسوائے زمانہ کتاب ”براہین قاطعہ“ میں شیطان کے علم کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے وسیع تر مانا اور جو حضور کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ مانے اسے مشرک بتا کر گستاخان رسول کی صف اول میں سب پر فوقیت حاصل کی۔

ان گندی اور گھناؤنی عبارتوں کو ایک ان پڑھ مسلمان بھی جب سنتا ہے تو بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ دھر لیتا ہے۔ آج بے شمار مسلمان وہ ہیں جن کے سامنے دیوبندیوں کی یہ خبیث عبارتیں نہیں، اسی لیے وہ ان کے ظاہری جبہ و دستار سے متاثر ہو کر ان کو سچا پکا مسلمان جانتے ہیں۔

لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بالکل عام فہم انداز میں ان کے کفریات اور خدا

ورسول کی شان میں ان کی گستاخیاں طشت از بام کی جائیں تاکہ امت مسلمہ کے بہت سے وہ افراد جو ان کے ظاہری تقدس سے فریب خوردہ ہیں وہ حقائق کے اجالے میں آجائیں۔
محب گرامی قدر عالی جناب میثم عباس صاحب نے جہاں ان عبارتوں کو واضح انداز میں پیش کر کے مسلمانوں کو دیوبندیوں کی حقیقت اور ان کی خبیث گستاخانہ طبیعت سے آگاہ کیا ہے وہیں ایک منفرد کام یہ بھی کیا ہے کہ دیوبندیوں کے ”علاتی بھائی“ غیر مقلدین کی طرف سے جو ان عبارت کی تردید، تجزیہ اور حکم بیان کیا گیا ہے اس کو بھی آشکار کر دیا ہے۔ یعنی دیوبندیوں کے مذکورہ بالا عقائد اتنے گندے ہیں کہ ان کی بہت سی گندگیوں میں ہم نوالہ وہم پیالہ رہنے والے غیر مقلدین بھی ان عبارت کو کفریہ مانتے ہیں اور ضروریات دین کے انکار پر مشتمل ٹھہراتے ہیں۔

بلاشبہ یہ جناب میثم عباس صاحب کی ایک اہم کاوش ہے جس کے ذریعہ یہ واضح ہوگا کہ اہل سنت و جماعت کسی کو بلاوجہ کافر نہیں قرار دیتے بلکہ اس کے پیچھے وہ حقائق ہوتے ہیں جو مخالفین بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، والحق یعلو ولا یعلیٰ۔

اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ اس کتاب کو قبول عام بخشے اور خاص طور پر فریب خوردہ اور سادہ لوح مسلمانوں کے لیے منارۃ نور بنائے اور پیغام حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ التحیة والتسلیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

محمد حنیف خان رضوی

خادم الحدیث جامعہ نور یہ رضویہ، بریلی

شریف

خلیفہ حضرت تاج الشریعہ مفتی اعظم اترکھنڈ

فاضل اجل حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار خان نعیمی مدظلہ العالی

الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد! محب گرامی وقار محترم میثم عباس قادری صاحب کی زیر نظر کتاب بنام ”اہل سنت کی حقانیت کا غیر مقلدین سے ثبوت“ کو طائرانہ نظر سے دیکھا ماشاء اللہ اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے موصوف محترم نے کافی محنت وجدوجہ سے اس کتاب پر کام کیا ہے۔ ”حُسَامُ الْحَرَمِينَ عَلَى مَنْحَرِ الْكُفْرِ وَالْمَنِينِ“ دیوبندی مکتبہ فکر کے اکابر علماء کی کفریات ومزخرفات پر مشتمل حرکات پر علماء حریم شریفین کی جانب سے جاری کردہ حکم کفر کی مضبوط اور معتبر مستند دستاویز ہے۔ ۱۳۲۴ ہجری میں ”حسام الحرمین“ کی اشاعت ہوئی آج اس کی اشاعت کو ۱۱۱ سال کا عرصہ گزر گیا، اس کی حقانیت و صداقت پر اہل سنت کا بالکل یہ اتفاق ہے موصوف نے نئی جہت اور نئے انداز سے ”حسام الحرمین“ کی تائید میں دیوبندی مکتبہ کی ہم فکر وہم عقیدہ وہابی جماعت کے علماء کی کتب سے عبارات پیش کر کے جو سعی فرمائی ہے اور اس کی صداقت پر وہابی جماعت کے نامور علماء کی تائیدی مہر لگانے کا جو کام سرانجام دیا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ موصوف اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔

مولی پاک سے دعا ہے کہ اپنے حبیب پاک کے طفیل موصوف کو اجر عظیم عطا فرمائے اور کتاب کو قبول عام سے مشرف فرمائے۔

خاکسار
محمد ذوالفقار خان نعیمی لکھنؤی

خادم نوری دارالافتائی، مدینہ مسجد محلہ علی خاں، کاشی پور، اترکھنڈ، انڈیا

خليفة مجاز حضرت سيدى تاج الشريعة و خانقاه عاليه قادريه واحديه چشتيه، بلگرام شريف حضرت

علامه مولانا مفتي راحت خان قادري شيا، جهاڻپوري مدظلہ العالی

حق و صداقت کی آواز بلند کرنے والوں کے خلاف آج بھی پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے جو کسی کے کفری قول کو کفر یا گمراہ کن ہفتوات کو گمراہ کہہ دے اسی پر تشدد کا الزام لگا کر اس کے تشدد ہونے کا راگ الاپا جاتا ہے۔ ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ نے دیوبندیوں کی کفریہ عبارتوں کے سبب دلائل و براہین کے ذریعہ ان کا رد کیا اور اپنے ہم عصر علمائے کرام کے ساتھ با اتفاق علمائے حریمین شریفین دیوبندیوں کی کفریہ عبارتوں کی وجہ سے ان کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ بجائے اس کے کہ دیوبندی اپنی کفریہ عبارتوں سے توبہ کرتے وہ اسی پر اڑے رہے اور اپنی کالی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اہل سنت و جماعت کو تشدد اور تکفیری گروہ وغیرہ کہنے لگے۔

حق سرچڑھ کے بولتا ہے، اس کی گواہی جانے انجانے میں دشمن بھی دے دیتا ہے ”الحق ما شہدت بہ الأعداء“ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے جن کفری عبارات کے سبب دیوبندیوں کو کافر کہا تھا ان کفریہ عبارتوں کو وہابیوں نے بھی کفر ہی قرار دیا ہے اس کو آفت جان دیوبندیت، محب محترم، گرامی قدر جناب میثم عباس قادری رضوی نے انہیں کی کتابوں سے مضبوط اور ٹھوس دلائل کے ساتھ بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ”حَسَامُ الْخَرَمَيْنِ عَلَيَّ مَنْحَرُ الْكُفْرِ وَالْمَيْنِ“ کی حق و صداقت کی تصدیق وہابیوں کی کتابوں سے بھی ہوتی ہے۔ یقیناً کتاب انوکھی اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ مفید مضمون پر مشتمل ہے جو زلزلہ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو بہتر جزا عطا فرمائے۔

محمد راحت خاں قادری شيا، جهاڻپوري

بانی و ناظم دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ بریلی شریف

۱۳ صفر المظفر ۱۴۳۷ھ بروز جمعرات

”اہل سنت کی حقانیت کا غیر مقلدین سے ثبوت“

پر ایک تاثر

حضرت مولانا ڈاکٹر محمد حسین مٹھا ہد روضی مدظلہ العالی (ماہی گاؤں، انڈیا)

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ (م ۱۳۲۰ھ) کے کارہائے نماں میں سے اہم ترین گستاخانِ خدا و رسول (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) سے اُمتِ مسلمہ کو باخبر کرنا ہے۔ آپ نے اسلام کے نام پر وجود میں لائے گئے فرقہ بے باطلہ کی سرکوبی کے لیے علمی و تحقیقی کتب و رسائل تصنیف فرمائے۔ اُن کے ایمان سوز نظریات کا دندان شکن جواب دیا۔ ایک سچے اور مخلص محبِ مسلمین ہونے کی حیثیت سے آپ نے پہلے اہل باطل کے کفریہ عقائد پر حجت قائم فرمائی۔ جب ان لوگوں نے حقائق سے چشم پوشی کی اور اپنے باطل عقیدے پر جبرے تو امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی نے علمائے حریمین شریفین کی بارگاہ میں نیاز مندانہ سوالات ارسال کیے جن کے جواب میں علمائے حریمین نے علمائے دیوبند پر کفر کے فتاوے صادر فرمائے، ان ہی فتاووں پر مشتمل کتاب کا نام ”حُسْنَامُ الْحَرَمِیْنِ عَلٰی مَنْحَرِ الْکُفْرِ وَالْمَیْمِیْنِ ۱۳۲۴ھ“ ہے۔ جس کا اردو ترجمہ شہزادہ برادر رضا مولانا حسنین رضا بریلوی علیہ الرحمہ نے ”مبین احکام و تصدیقات اعلام ۱۳۲۵ھ“ کے نام سے فرمایا۔ عقائد کی دنیا میں اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے آج ایک بڑے حلقے میں اسے امتیازِ حق و باطل کا علامتی نشان کا درجہ حاصل ہے۔ متعدد اداروں سے درجنوں مرتبہ اس کتاب کی اشاعت عمل میں آچکی ہے۔ پاکستان کے مشہور اشاعتی ادارے ”النوریہ الرضویہ پبلشنگ کمپنی، لاہور“ نے اس کتاب کو شائع کیا تھا، اس میں حسام الحرمین اور اس کے اردو ترجمہ کے علاوہ مزید دو اہم کتب (۱) تالیف شمشیرِ حریمین، اور (۲) اہل سنت کی حقانیت کا غیر مقلدین سے

ثبوت، بھی شامل ہیں۔ ”تابشِ شمشیرِ حریمین“ علامہ اسرار احمد صاحب مدظلہ کی کتاب ہے جو کہ ”حسامِ الحرمین“ پر تصدیقات اور دیگر عقائدِ ضروریہ پر مشتمل ہے۔

نوری مشن، مایگاؤں کے زیرِ انصرام شائع شدہ پیش نظر کتاب ”اہل سنت کی حقانیت کا غیر مقلدین سے ثبوت“ ہماری جماعت کے جواں سال محقق عالم جناب میثم عباس قادری کے تیشہ تحقیق کی حسین و جمیل اور اپنی طرز کی انوکھی پیش کش اور یافت ہے۔ جو ہر اعتبار سے قابلِ ستائش ہے۔ واضح ہو کہ جناب میثم عباس قادری صاحب کی یہ تحقیقی کاوش اپنے موضوع کے لحاظ سے باضابطہ پہلی تصنیف کہلانے کا استحقاق اپنے نام محفوظ رکھے گی۔

اس کتاب کی تالیف میں جناب میثم عباس قادری صاحب نے بڑی عرق ریزی، جان فشانی اور تحقیق و تقصص سے کام لیا ہے۔ کتاب کے مطالعہ کے بعد ایک بالکل نیا رخ سامنے آتا ہے۔ جو یقیناً مذہبی دنیا میں جاری انتشار و افتراق پر فکر مند افراد کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دے گا۔ اور انھیں بھی یہ سمجھ میں آجائے گا کہ ملتِ اسلامیہ کے درمیان اختلافات محض نفسانیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے اسباب و علل بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں۔ جن کا براہِ راست تعلق ایمان و کفر سے ہے۔

غیر منقسم ہندوستان میں زمانہ قدیم سے مسلمانوں کی اکثریت جن عقائد کو مانتی چلی آرہی ہے۔ اُسے آج عرفِ عام میں ”بریلوی“ کہا جاتا ہے۔ جب کہ مزید دو طبقے ایک ”دیوبندی“ اور دوسرا ”وہابی“ ہیں۔ دیوبندی اپنے آپ کو امامِ اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مقلد کہتے ہیں جب کہ وہابی اپنے آپ کو غیر مقلد۔ حقائق اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ علمائے دیوبند اور علمائے غیر مقلدین دونوں ہی عقائد کے باب میں محمد بن عبد الوہاب

(۱) ”نوری مشن، مایگاؤں“ کے احباب نے اس کی اشاعت کا ارادہ ظاہر کیا تھا یہ تقریباً اسی تناظر میں لکھی گئی تھی تا حال یہ کتاب وہاں سے شائع نہیں ہوئی۔ اسیدِ واثق ہے کہ وہاں سے اس کی اشاعت جلد ہوگی (میثم قادری)

(۲) یہ حضرت کاخسن ظن ہے راقم ان الفاظ کا اہل نہیں ہے۔ (میثم قادری)

نجدی اور شاہ اسماعیل دہلوی کے پیروکار ہیں۔ ”کتاب التوحید“، ”تقویۃ الایمان“ اور ”صراطِ مستقیم“ جیسی دل آزار کتابیں علمائے دیوبند اور علمائے غیر مقلدین کے نزدیک معتبر

اور مستند کتب کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہی وہ کتابیں ہیں جن کے مشمولات کے سبب برصغیر ہندو پاک کی متحدہ مذہبی فکر میں اختلاف و انتشار کا آغاز ہوا۔

ماضی قریب میں فروعی مسائل میں اختلاف رکھنے والے اور عقائد و نظریات کی بنیاد پر باہم متحد و متفق علمائے دیوبند اور علمائے غیر مقلدین دنیوی مفاد کے لیے متحد اور یک جا ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت عالمی منظر نامے پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی مکتب فکر اور غیر مقلد طبقے کے علماء و عوام ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مناظرانہ روش زیادہ پرانی نہیں۔ جب علمائے دیوبند کو سعودی ریال اور پیٹرو ڈالر ملنا بند ہوئے تب ہی سے ان کو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی یاد ستانے لگی اور وہ دنیا بھر میں ”تحفظ سنت“، ”امام اعظم ابوحنیفہ“ اور ”تقلید ائمہ کی شرعی حیثیت“ جیسے عنوانین پر کانفرنسیں اور سیمینار کا انعقاد کرنے لگے۔

ایک طرف تو دیوبندی، غیر مقلدین سے شدید ترین اختلافات کا اظہار کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جب غیر مقلدین کا آقا حرم کا امام بھارت دورے پر آتا ہے تو علمائے دیوبند حرم کے امام کو دیوبند آنے کی دعوت دیتے ہیں اور اُس کی دیوبند آمد پر شاندار استقبال کرتے ہیں۔ امام حرم اپنے بھارت دورے پر جہاں علمائے دیوبند کے مرکز پر حاضر ہوتا ہے وہیں غیر مقلدین کے مراکز پر بھی جاتا ہے۔ عقل حیران ہے اس چہ بوالعجبی ست۔

اہل سنت و جماعت جسے عرف عام میں آج کل ”بریلوی“ کہا جاتا ہے۔ ایک سیدھا سچا اور اچھا راستہ ہے۔ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین کے مسلک حق و صداقت کا حقیقی ترجمان ہے۔ اور یہی سواد اعظم کا مصداق ہے۔ جس کے تبعین کسی بھی حال میں باطل فرقوں سے کبھی بھی اتحاد و ودادہ و انہیں رکھتے۔

جناب میثم عباس قادری نے اپنی کتاب ”اہل سنت کی حقانیت کا ثبوت غیر مقلدین کے قلم سے“ میں بڑی عرق ریزی اور تحقیق و تفحص سے اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچانے

نے کامیاب ترین کوشش کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے قائد و سالار امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ کے استفتا پر علمائے حریم شریفین کے جواب اور علمائے دیوبند کے باطل عقائد پر کفر کے فتاویٰ کی تصدیق و توثیق کی کس طرح غیر محسوس طور پر علمائے غیر مقلدین بھی اہل سنت و جماعت کے شانہ بشانہ دکھائی دیتے ہیں۔ میثم صاحب نے کہیں بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں لکھی بلکہ غیر مقلدین کی کتابوں سے اپنے موقف کو پیش کیا ہے۔ امام اہل سنت کے ذلیعہ علمائے حریم کے فتاویٰ کے منظر عام پر آنے کے بعد دیوبندیوں کی تکفیر پر علمائے اہل سنت کو شب و ستم کا نشانہ بنانے والوں بالخصوص غیر مقلدین کے لیے یہ تاریخ ساز کتاب انتہائی چشم کُشا ہے۔ اس کتاب میں درج غیر مقلدین کی کتب کے حوالہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن لوگوں نے بھی ”تخذیر الناس“۔ ”براہین قاطعہ“ اور ”حفظ الایمان“ کی گستاخانہ عبارتوں کو گستاخانہ قرار دے کر ایک طرح سے ”حسام الحرمین“ کی تائید و حمایت کر دی ہے۔ ”اہل سنت کی حقانیت کا غیر مقلدین سے ثبوت“ میں آپ علمائے دیوبند کی گستاخانہ عبارات کا رد غیر مقلد علمائے کتابوں کی روشنی میں ملاحظہ کریں گے جس سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے موقف کی صداقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔

یہ جواں سال محقق عالم جناب میثم عباس قادری صاحب کے لیے یقیناً ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی یہ تحقیقی کتاب ۱۴۳۳ھ / ۲۰۱۳ء اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی معرکہ آرا ایمان افروز اور باطل شکن تالیف ”حُسَامُ الْحَرَمِیْنِ عَلٰی مَنْحَرِ الْکُفْرِ وَالْمُنِیْنِ“ کے ساتھ پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ اب اہل سنت کے معروف اشاعتی ادارے نوری مشن، مالیکوؤں کی جانب سے اس کی اشاعت عمل میں آرہی ہے۔ الاما شاء اللہ۔

پہلے ایڈیشن کی بہ نسبت اس میں کچھ حوالہ جات کا اضافہ اور کچھ مقامات پر الفاظ

تبدیل کیے گئے ہیں اس کتاب میں غیر مقلدین کی کتب سے نقل کی گئی عبارتوں میں تو سین میں شامل الفاظ بھی غیر مقلدین ہی کے ہیں۔ جناب میثم عباس قادری صاحب کی اس تحقیق اہنق کو دیکھ کر بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے اُن کے حق میں دعائے خیر نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں اسی طرح احقاقِ حق اور ابطالِ باطل میں سرخرو رکھے۔ (آمین)

(ڈاکٹر) محمد حسین مُشاہدِ رضوی

سروے نمبر ۳۹ پلاٹ نمبر ۱۴، نیا اسلام پورہ،

مالِ گاؤں (ناسک) ۲۰۳۲۰۳ انڈیا۔

mushahidrazvi79@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مؤلف

تمام تعریفیں حق سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا رب ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں، وہ خدائے بزرگ و برتر اپنے بندوں پر نہایت شفیق ہے، اُس کا بے پایاں کرم ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت بنایا۔

کچھ سال قبل اکابر دیوبند کی گستاخانہ عبارات کے رد میں غیر مقلدین کی کتب کے کچھ حوالہ جات مطالعہ میں آئے تو راقم نے اس وقت جناب سید بادشاہ تبسم بخاری صاحب کو اس مقصد کے لئے پیش کر دیے کہ وہ اپنی زیر تالیف کتاب ”ختم نبوت اور تحذیر الناس“ میں شامل کر لیں، اب یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور اس کے صفحہ 460 سے صفحہ 464 تک یہ حوالہ جات شامل ہیں۔ بعد ازاں اس موضوع پر مزید حوالہ جات راقم کی نظر سے گذرے، جس کے بعد فیصلہ کیا کہ ان سب حوالہ جات کو الگ سے کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے، راقم کی یہ تالیف ۲۰۱۳ عیسوی / ۱۴۳۳ ہجری میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا مفتی الشاہ احمد رضا خاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معرکتہ الآراء باطل شکن تالیف ”حُسامُ الحَرَمَیْنِ عَلَی مَنْحَرِ الْکُفْرِ وَالْمَیْنِ“ کے ساتھ پہلی دفعہ لاہور سے شائع ہوئی، اب ۲۰۱۶ عیسوی / ۱۴۳۷ ہجری میں ترمیم اور مزید حوالہ جات کے اضافات کے ساتھ دوبارہ شائع ہو رہی ہے۔

اس کتاب پر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ ساتی مدظلہ العالی (گوجرانوالہ) نے مبسوط مقدمہ تحریر فرمایا تھا، جس کا اصل مسودہ اس کتاب کے ناشر اول کو طبع ثانی میں شامل کرنے کے لیے دے دیا، لیکن موصوف کی لاپرواہی سے وہ مقدمہ گم ہو گیا اور اس طباعت میں شامل نہیں ہو سکا، جس کا بہت افسوس ہے۔ محترم و مکرم ڈاکٹر محمد

حسین مُشاہدِ رضوی مدظلہ العالی نے بوجہ حُسنِ راقم کے متعلق جن الفاظ کا استعمال کیا ہے راقم ان کا اہل نہیں، اللہ کریم ان الفاظ کو میرے حق میں مقبول دعا بنا دے۔ آمین وہابی سجدی علماء کی عربی کتب کے اقتباسات کے اردو مفاہیم پر نظر ثانی و اصلاح حضرت مولانا مزمل رضا قادری مدظلہ العالی نے فرمائی، جس کے لیے ان کا مشکور ہوں۔ اس کتاب میں غیر مقلد علماء کی کتب سے نقل کردہ اقتباسات میں قوسین () میں شامل الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔

ایک اہم اعلان: میری اپنی تحریر یا میری مرتب کردہ کتاب میں اگر کسی ایسی بات کی نشان دہی ہو جو مسلکِ اہلِ سنت و جماعت بالخصوص اعلیٰ حضرت امامِ اہلِ سنت مجددِ دین و ملت مولانا الشاہ مفتی احمد رضا خان قادری فاضلِ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف ہو تو میں اس سے پیشگی رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے خدمتِ دین کی توفیق دے رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر ہی موت عطا فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ اٰلِهِ وَ سَلَّمَ

میشم عباس قادری رضوی، لاہور، پاکستان

massam.rizvi@gmail.com

امابعد! وہ قارئین جو سنی دیوبندی اختلاف کی حقیقت سے ابھی تک آگاہ نہیں ہیں ان کی معلومات کے لیے علمائے دیوبندی وہ گستاخانہ عبارات جن کی وجہ سے علمائے حرمین شریفین و علمائے ہندوستان نے ان کو کافر قرار دیا تھا، پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس کتاب کا پس منظر سمجھنے میں آپ کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔

☆ دیوبندی مذہب کے امام مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو عوام کا خیال قرار دیتے ہوئے لکھا:

”عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں وَلَٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٰٓيْنَ فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے“۔

(تخذیر الناس صفحہ 4، 5 مطبوعہ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، ایضاً صفحہ 41 ادارہ العزیز، نزد جامع مسجد صدیقیہ، گلہ برف خانہ، سیالکوٹ روڈ، کھوکھری، گوجرانوالہ)

☆ مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی دوسری عبارت ملاحظہ کریں جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نبی کے وجود کو ختم نبوت کے منافی نہ قرار دیتے ہوئے لکھا:

”اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے“۔

(تخذیر الناس صفحہ 18، مطبوعہ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، ایضاً صفحہ 65، ادارہ العزیز، نزد جامع مسجد صدیقیہ، گلہ برف خانہ سیالکوٹ روڈ، کھوکھری، گوجرانوالہ)

☆ مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گا، عبارت ملاحظہ کیجیے:

”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“

(تخذیر الناس صفحہ ۳۳ مطبوعہ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی۔ ایضاً صفحہ ۸۵ مطبوعہ ادارہ العزیز، نزد جامع مسجد صدیقیہ، گلہ برف خانہ، سیالکوٹ روڈ، کھوکھر کی، گوجرانوالہ)
نانوتوی صاحب کی یہ تینوں عبارات اپنی جگہ مستقل کفر ہیں۔

☆ مولوی خلیل احمد انیٹھوی دیوبندی اور مولوی رشید احمد گنگوہی نے ”براہین قاطعہ“ میں لکھا کہ شیطان و ملک الموت کے لیے علم کا وسیع و زائد ہونا تو نص یعنی آیت قرآنی اور حدیث نبوی سے ثابت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے لیے علم کا وسیع و زائد ہونا کسی نص یعنی کسی آیت، کسی حدیث سے ثابت نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے لیے علم کا وسیع ہونا نصوص قطعیہ کے خلاف اور شرک ہے، عبارت ملاحظہ کیجیے:

”شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔“

(براہین قاطعہ صفحہ 55 مطبوعہ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی)

☆ مولوی عبدالرؤف جگن پوری دیوبندی نے بھی ”براہین قاطعہ“ کی عبارت کی توضیح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ملک الموت اور شیطان مردود کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور محفل میلاد میں جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا تشریف لانا نصِ قطعی سے ثابت نہیں ہے۔

(برآة الابراصفحہ 57، مطبوعہ مدینہ برقی پریس، جنور۔ ایضاً صفحہ 57، مطبوعہ تحفظ نظریات دیوبند، اکادمی

پاکستان۔ اگست 2012ء)

یعنی دیوبندی مذہب کے مطابق حضرت منکک الموت اور شیطان مردود نصِ قطعی سے اللہ کے شریک ہیں۔ (نعوذ باللہ من ذالک)

☆ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے پہلے مولوی اسماعیل دہلوی کی اتباع کرتے ہوئے مسئلہ امکانِ کذب اپنایا، پھر اس کے بعد مزید پیش قدمی کرتے ہوئے اپنے ایک فتویٰ لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”جو اللہ تعالیٰ کو کاذب بالفعل کہے اسے گمراہ و فاسق نہ کہا جائے کیونکہ پہلے ائمہ کا بھی یہی مذہب تھا اس شخص سے فقط تاویل میں غلطی ہوئی ہے“

یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقوعِ کذب کا عقیدہ گڑھا اور جھوٹ بولتے ہوئے پچھلے ائمہ پر تھوپ دیا۔ مولوی رشید گنگوہی دیوبندی کی زندگی میں اس فتوے کا رد ہوا لیکن جناب نے اپنے اس فتوے سے انکار نہیں کیا۔ گنگوہی صاحب کے اس قلمی فتوے کا عکس قدیم علمائے اہل سنت کے پاس موجود تھا۔ مولانا غلام مہر علی گولڑوی نے 1956ء میں اپنی کتاب ”دیوبندی مذہب کا علمی محاسبہ“ اپنے ”کتب خانہ مہریہ، مسجد نوری، منڈی چشتیاں شریف، پاکستان“ سے شائع کی۔ اس کتاب میں گنگوہی صاحب کے اس قلمی فتویٰ وقوعِ کذب باری تعالیٰ کا عکس صفحہ 326 کے ساتھ شائع کیا، اس طباعت میں یہ فتویٰ پڑھا جا سکتا ہے۔ (راقم کے پاس ”دیوبندی مذہب“ کا یہ قدیم نسخہ موجود ہے) اس کے بعد لاہور سے پہلے ”مکتبہ حامدیہ“ اور پھر ”ضیاء القرآن“ نے کتاب ”دیوبندی مذہب“ کو شائع کیا، لاہور کے مطبوعہ نسخہ کا عکس کچھ عرصہ قبل کراچی سے طبع ہوا ہے۔ لیکن ان سب طباعتوں میں ”فتویٰ وقوعِ کذب باری تعالیٰ“ کا عکس پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے۔

حضرت شارح بخاری علامہ مولانا سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی یہ فتویٰ موجود تھا۔ آپ اپنی کتاب ”چراغِ ہدایت بجواب چراغِ سنّت“ میں مولوی فردوس علی قصوری دیوبندی کا رد کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”اور اب رہا یہ کہ کیا مولوی رشید احمد گنگوہی نے کہیں یہ لکھا ہے کہ ”خدا نے جھوٹ بول دیا اور وقوعِ کذب کے معنی درست ہو گئے“ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ جلدی نہ کیجیے اپنے موقع پر یہ بات بھی آجائے گی۔ اگر ہم اس کے دستخطی فتویٰ کا نوٹوں نہ دکھا سکیں گے تو ہم جھوٹے اور اگر دکھا دیں تو کم از کم اہل قصور مصنف ”چراغِ سنّت“ کو تو جھوٹا کریں اور ہماری صداقت کا اعتراف کروائیں“

(چراغِ ہدایت صفحہ ۴۹ مطبوعہ مکتبہ رضوان، گنج بخش روڈ، لاہور۔ طبع اول ۱۹۸۹ء)

فتویٰ وقوعِ کذبِ باری تعالیٰ کے مدلل رد کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنّت مجدد دین و ملت مولانا مفتی الشاہ احمد رضا خاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قصیدہ مبارکہ ”الاستمداد علی اجیال الارتداد“ کی حضرت مفتی اعظم ہند علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر فرمودہ شرح بنام ”کشفِ ضلالِ دیوبند“ صفحہ ۲۵ اور صفحہ ۹۱ تا ۹۴ (مطبوعہ مطبع اہل سنت و جماعت، بریلی۔ ایضاً صفحہ ۵۹، ۶۰ اور ۷۳ تا ۷۷ انوری کتب خانہ، بازار داتا صاحب، لاہور۔ ایضاً صفحہ ۴۵، ۴۶ اور ۶۵ تا ۶۹ مطبوعہ مدرسہ قادریہ، ۵۱/۵۷ ڈوننا اسٹریٹ، دوسرا منزلہ، مقابل رضا اکیڈمی، بہمنی) اور حضرت شارح بخاری نانپ مفتی اعظم ہند مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ”سُنّی دیوبندی اختلافات کا منصفانہ جائزہ“ صفحہ ۱۳۱ تا ۱۵۱ مطبوعہ ”دائرۃ البرکات، کریم الدین پور، گھوسی، منو۔ ہندوستان“ ملاحظہ کریں۔ (کچھ عرصہ قبل پاکستان میں فرید بک سٹال، ۳۸۔ اردو بازار، لاہور نے یہ کتاب ”تحقیقات“ کے ساتھ شائع کر دی ہے۔ فتویٰ وقوعِ کذبِ باری تعالیٰ کے متعلق بحث کے مطالعہ کے لیے اس کے صفحات ۳۸ تا ۳۶ ملاحظہ کریں)

☆ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب ”حفظ الایمان“ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شدید گستاخی کرتے ہوئے آپ کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھا:

”آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے“

(حفظ الایمان صفحہ ۸، مطبوعہ مطبع علمی، دہلی۔ ایضاً صفحہ ۱۳ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ، کراچی۔

ایضاً صفحہ ۱۳ مطبوعہ کتب خانہ مجیدیہ، ملتان)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا مفتی الشاہ احمد رضا خاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکابر دیوبند کی کتب ”تخذیر الناس“، ”برائین قاطعہ“، ”حفظ الایمان“ اور فتویٰ وقوع کذب علمائے حریم شریفین کی خدمت میں پیش کیا۔ علمائے حریم شریفین نے ان گستاخانہ عبارات کو ملاحظہ کرنے کے بعد اپنے فتاویٰ میں دیوبندی اکابر کو کافر قرار دے دیا۔ یہ فتاویٰ ملاحظہ کرنے کے لیے ”حَسَامُ الْحَرَمِیْنِ عَلٰی مَنْحَرِ الْکُفْرِ وَالْمَیْنِ“ کا مطالعہ کریں۔ بعد ازاں امام المناظرین فاتح مذاہب باطلہ شیر پیشہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حشمت علی خان لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متحدہ ہندوستان کے علماء کی بارگاہ میں تکفیر دیوبندیہ کے متعلق استفتاء پیش کر کے ”حَسَامُ الْحَرَمِیْنِ عَلٰی مَنْحَرِ الْکُفْرِ وَالْمَیْنِ“ کے لیے تصدیقات حاصل کیں اور مبارک کتاب ”الصَّوَارِمُ الْهِنْدِیَّةُ عَلٰی مَكْرِ شَیْطَانِ الدِّیُوْبِنْدِیَّةِ“ میں شائع کیں۔

علمائے دیوبندی غیر مقلدین کے ساتھ فکری ہم آہنگی:

غیر مقلد وہابی اور مقلد وہابی (یعنی دیوبندی) فرقوں کی ہندوستان میں پیدائش مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کے بطن سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ اسماعیلیہ کی ان دونوں

شاخوں میں بہت زیادہ فکری ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اس کی مختصر وضاحت ملاحظہ کریں۔
☆ غیر مقلدین کے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:

”عقائد میں سب متحد مقلد غیر مقلد ہیں البتہ اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔“

(فتاویٰ رشیدیہ صفحہ 62، محمد علی کارخانہ اسلامی کتب، اردو بازار، کراچی، ایضاً صفحہ 92، مطبوعہ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، ایضاً صفحہ 77 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور، ایضاً صفحہ 185 محمد سعید اینڈ سنز تاجران کتب، قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی، ایضاً صفحہ 10، حصہ دوم، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ، آرام باغ، کراچی، ایضاً صفحہ 208 مشمولہ تالیفات رشیدیہ، مطبوعہ ادارہ اسلامیات، 190، انارکلی، لاہور)

☆ مولوی سمیع الحق دیوبندی مہتمم جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک، پاکستان سے اٹلی کی ایک صحافیہ نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا:

”س: دیوبندیوں اور وہابیوں میں کیا فرق ہے؟ ج: دیوبندی اور وہابی قریب قریب ہیں یہ جو خرافات ہیں لوگوں نے دین میں شامل کر دی ہیں بت پرستی اور قبر پرستی شرک اور بدعات کے یہ لوگ خلاف ہیں“

(صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام، طالبان افغانستان کے تناظر میں صفحہ ۱۳۳ مطبوعہ فتویم المصنفین، دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک، پاکستان۔ طبع دوم محرم الحرام ۱۴۲۶ھ/فروری ۲۰۰۵ء)
مولوی سمیع الحق دیوبندی صاحب نے دیوبندیہ کو وہابیہ کے قریب قرار دیا ہے اور نام لیے بغیر اہل سنت کو بت پرست قبر پرست مشرک اور بدعتی قرار دیا ہے۔

غیر مقلدین کی علمائے دیوبند کے ساتھ فکری ہم آہنگی:

علمائے دیوبند کی طرف سے غیر مقلدین کے ساتھ اتحاد قارئین نے ملاحظہ کر لیا۔ اب غیر مقلدین کی جانب سے دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد و یک جہتی ملاحظہ کریں۔

☆ غیر مقلدین کے مزعومہ شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب غیر مقلد وہابی اور گلابی وہابی (یعنی دیوبندی) کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان دونوں شاخوں کا مخرج ایک ہی تھا۔“

(فتاویٰ ثنائیہ جلد اول صفحہ 415، باب اول، عقائد و مہمات دین مطبوعہ ادارہ ترجمان السنہ، 7۔ ایک روڈ لاہور)

☆ امرتسری صاحب مزید لکھتے ہیں:

”سوائے مسئلہ تقلید کے تردید رسومِ شرکیہ میں دونوں شاخیں ایک دوسرے کے موافق اور مؤید ہیں۔“

(فتاویٰ ثنائیہ جلد اول صفحہ 415، باب اول، عقائد و مہمات دین مطبوعہ ادارہ ترجمان السنہ، 7۔ ایک روڈ لاہور)

☆ اسی فکری ہم آہنگی کی وجہ سے اہل سنت و جماعت اور دیوبندی فرقہ کے درمیان مسجد وزیر خان لاہور میں ہونے والے مشہور ”فیصلہ کن مناظرہ“ میں مولوی ثناء اللہ امرتسری دیوبندی فرقہ کے ساتھ رہے، ملاحظہ ہو۔

(سیرت ثنائی، صفحہ 411، 412 مطبوعہ نعمانی کتب خانہ، حق سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ ایضاً، صفحہ

411، 412 مطبوعہ مکتبہ قدوسیہ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور)

☆ لاہور کے اس مشہور ”فیصلہ کن مناظرہ“ میں غیر مقلد مولوی ثناء اللہ امرتسری کے دیوبندیوں کی طرف سے مناظرہ کے لیے آنے کا منظر بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (سابق خطیب مسجد وزیر خان، لاہور) لکھتے ہیں:

”دیوبندی اور وہابی درحقیقت ایک ہی ہیں بظاہر جنگ زرگری رکھتے ہیں اندرونی صورت میں ایک اور ملے جلے ہیں چنانچہ لاہور میں فیصلہ کن مناظرہ پر جب مولوی منظور سنبھلی کمزور پڑتے دیکھے اور شرائط طے نہ کر سکے تو مولوی احمد علی شیرانوالی کی جماعت نے فوراً ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری کو بلا لیا جس سے اہل لاہور پر اظہر من الشمس ہو گیا کہ دیوبندی اور غیر مقلد درحقیقت ایک ہیں اسی وقت چاروں طرف سے لعن طعن شروع ہو گئی تھی“

(ایمان و کفر انسان صفحہ ۲۶ مطبوعہ بزم تنظیم شعبہ اشاعت مرکزی انجمن حزب الاحناف ہند، لاہور)

اس اقتباس میں حضرت مولانا ابوالحسنات قادری نے دیوبندیوں اور غیر مقلد

وہابیوں کو ایک قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنی ایک اور کتاب میں بھی دیوبندیوں اور غیر مقلد وہابیوں کو ”ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے“ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

”جب فیصلہ کن مناظرہ مسجد وزیرخان میں ہوا۔ اور تمام مسلمانانِ لاہور پر واضح ہو گیا کہ فرقہ وہابیہ اور دیوبندیہ اور ثناء اللہ امرتسریہ، یہ سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں اور اثناء مناظرہ میں مولوی ثناء اللہ کو جب مولوی احمد علی کی جماعت نے اسٹیج پر براجمان کر لیا تو لوگوں نے علی الاعلان کہہ دیا کہ ”جمعیت الاحناف“ حقیقتاً ”جمیعتہ الثنائیہ“ ہے“

(اظہار حقیقت بر ماتم اوراق نم صفحہ ۵۴، مطبوعہ بزم تنظیم شعبہ اشاعت مرکزی انجمن حزب الاحناف

ہند، لاہور)

☆ مولوی اسماعیل سلفی غیر مقلد صاحب کے فرزند مولوی حکیم محمود احمد صاحب بھی علمائے دیوبند کو اپنا ہم عقیدہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہم اور دیوبندی ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں“

(علمائے دیوبند کا ماضی، تاریخ کے آئینے میں صفحہ ۱۱ مطبوعہ ادارہ نشر التوحید والسنہ، لاہور)

☆ اس اقتباس کے بعد حکیم صاحب غیر مقلدین اور دیوبندیہ کے بہتر مستقبل کو ان دونوں مسالک کے اتحاد پر موقوف قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”عقائد میں بھی کوئی ایسا بعد نہیں رہا بلکہ ہمارا اور اس مسلک کا مستقبل بھی دونوں کے اتحاد پر موقوف ہے“

(علمائے دیوبند کا ماضی، تاریخ کے آئینے میں صفحہ ۱۱ مطبوعہ ادارہ نشر التوحید والسنہ، لاہور)

☆ ایک اور مقام پر دیوبندیوں سے اتحاد و یگانگت بیان کرتے ہوئے حکیم صاحب لکھتے ہیں:

”دیوبندی اہل حدیث تعلقات بہت اچھے ہیں اہل توحید ہونے کے ناطے سے ہم دیوبندی حضرات سے خوش دلانہ رابطہ رکھتے ہیں اور اکثر مسائل میں ہمارا موقف ایک ہوتا ہے جو باہم افہام و تفہیم سے طے کر لیا جاتا ہے“

(علمائے دیوبند کا ماضی، تاریخ کے آئینے میں صفحہ ۱۴ مطبوعہ ادارہ نشر التوحید والسنہ، لاہور)

☆ غیر مقلدین کے مزعومہ امام العصر مولوی احسان الہی ظہیر آنجنہانی نے بھی اپنی بدنام زمانہ کتاب ”البریلویت“ میں اکابر دیوبند کی وکالت کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے:

”حریمین شریفین کے علماء سے ان کے خلاف فتوے بھی لئے استفتاء میں ایسے عقائد ان کی طرف منسوب کئے جن سے بری الذمہ تھے۔ امام محمد قاسم نانوتوی، علامہ رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے اور برملا ان کے کفر و ارتداد کے فتووں کا اظہار کرتے تھے۔“

(بریلویت، صفحہ 195، مطبوعہ ادارہ ترجمان السنہ، لاہور)

☆ مولوی احسان الہی ظہیر صاحب نے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی وکالت کرتے ہوئے لکھا:

”سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی ان کی تکفیر کا نشانہ بنے۔“

(بریلویت، صفحہ 214، مطبوعہ ادارہ ترجمان السنہ، لاہور)

قارئین! آپ نے ملاحظہ کیا کہ مولوی احسان الہی ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت پر اس وجہ سے تنقید کی کہ انہوں نے اکابر دیوبند مولوی قاسم نانوتوی، مولوی خلیل انیسٹھوی، مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارات کو گستاخانہ قرار دے کر ان کی تکفیر پر علمائے حریمین سے تصدیقات لیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی یہ روشن کرامت ہے کہ احسان الہی ظہیر صاحب کے فرقہ کے غیر مقلد وہابی علماء بھی مسئلہ تکفیر دیوبندیہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کی تصدیق کر رہے ہیں، اپنی موت سے تین دن قبل بقول غیر مقلدین مولوی احسان الہی ظہیر غیر مقلد صاحب نے دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا (حوالہ کتاب کے آخر میں ملاحظہ کریں) قارئین کرام! ان ہم مخرج وہم عقیدہ وہابیہ دیوبندیہ کے

فکری اتحاد و یگانگت کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب اصل موضوع کی طرف آئیے اور غیر مقلد علماء کی طرف سے علمائے دیوبند کو گستاخ قرار دیے جانے کی تفصیل ملاحظہ کیجیے۔

مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی کتاب ”تخذیر الناس“

میں انکارِ ختمِ نبوت پر مبنی عبارات کا رد غیر مقلد علماء سے:

غیر مقلدین کے مزعمومہ ”شیخ العرب والجم“ مولوی بدیع الدین راشدی کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ غیر مقلدین کے مزعمومہ ”شیخ العرب والجم“ مولوی بدیع الدین شاہ راشدی صاحب علمائے دیوبند کے مزعمومہ امام الکبیر مولوی قاسم نانوتوی کو ختمِ نبوت کا منکر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ختمِ نبوت کو بھی یہ جس طرح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سنا تا ہوں۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا تو پھر ختم

نبوت تو نہیں رہی یہ میرے پاس مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی

کتاب ”تخذیر الناس“ موجود ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَلَٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّۦنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (سورہ الاحزاب،

آیت: 40) رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ اہم عقیدہ ہے۔ ہم کہتے

ہیں یہ آپ کی عظیم ترین فضیلت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں جو کوئی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی مانے تو کیا آپ (اس نام نہاد مسلم

کی نظر میں) خَاتَمَ النَّبِيِّۦنَ رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ”تخذیر الناس“ صفحہ 12

میں لکھتے ہیں کہ ”اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد کوئی

نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا“۔ مانا کہ دوسرا نبی

آئے گا تب بھی آپ خاتم النبیین ہیں پھر کہیے خاتم النبیین رہے؟ نبوت کی جگہ کو تم نے خود توڑا ہے اس میں تم نے خود رخنہ اندازی کی ہے، مرزائی بھی تو ایک امتی ہی کو آگے کرتے ہیں۔ آپ نے بھی امتی کو آگے کیا ہے۔ نبی کے پیچھے نہ آپ ہیں نہ وہ ہیں بات ایک ہی ہے۔ تم ایک ہی گائے کے چور ہوؤ۔
(برآة الہدیث، صفحہ 50، 51۔ مطبوعہ الدار الرشیدیہ۔ نزد جامع مسجد الہدیث، راشدی۔ گلی نمبر 1۔ موہلی لین لیاری کراچی)

☆ اس اقتباس کے آخری فقرہ کے حاشیہ میں غیر مقلد وہابی ڈاکٹر ابو عمر خورشید احمد شیخ نے لکھا ہے:
”یہ محاورہ ہے یعنی نظریہ دونوں کا ایک ہی ہے۔“

(برآة الہدیث، صفحہ 50، 51۔ مطبوعہ الدار الرشیدیہ۔ نزد جامع مسجد الہدیث، راشدی۔ گلی نمبر 1۔ موہلی لین لیاری کراچی)

ثابت ہوا کہ غیر مقلدین کے مزعومہ اور خود ساختہ ”شیخ العرب والعجم“ مولوی بدیع الدین راشدی اور ڈاکٹر ابو عمر خورشید احمد کے نزدیک مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب منکر ختم نبوت ہیں۔

غیر مقلد مولوی یحییٰ گوندلوی کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ غیر مقلد وہابی مولوی یحییٰ گوندلوی صاحب نے اپنی کتاب ”مطرقۃ الہدید بر فتویٰ مولوی رشید“ میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کی کتاب ”تحذیر الناس“ سے انکا ختم نبوت پر مشتمل عبارات یوں نقل کی ہیں:

”آپ کے زمانہ میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہو تو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے مولانا نے وضاحت فرمادی کہ آپ کی موجودگی یا بعد میں بھی کوئی نبی آجائے تو تب بھی آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔“

(مطرقۃ الحدید، صفحہ 67، 68۔ ناشر ناظم جامعہ رحمانیہ الحدیث، قلعہ دیدار سنگھ، پاکستان)

☆ بیچی گوندلوی صاحب نے اسی کتاب میں ایک جگہ مزید لکھا ہے:
”ختم نبوت کے مقفل دروازہ کو بعض اکابر دیوبند نے توڑنے کی کوشش کی۔“

(مطرقۃ الحدید، صفحہ 69 ناشر ناظم جامعہ رحمانیہ الحدیث، قلعہ دیدار سنگھ، پاکستان)

غیر مقلد وہابی مولوی بیچی گوندلوی صاحب کے اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی منکر ختم نبوت ہیں اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ برحق ہے۔ الحمد للہ۔

غیر مقلد مولوی خواجہ قاسم کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر

ختم نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولوی قاسم نانوتوی

دیوبندی کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اصلی، بروزی، مرقا، مذاقی کا نبی بننا محال بالذات ہے۔ اسی معنی پر سب

مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور یہ ہی معنی حدیث نے بیان فرمائے۔ جو اس کا

انکار کرے وہ مرتد ہے۔ (جیسے کہ قادیانی اور دیوبندی)۔“

(جاء الحق صفحہ نمبر 363، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ، بیسمنٹ میاں مارکیٹ، اردو بازار، لاہور)

غیر مقلد وہابی مولوی خواجہ قاسم صاحب نے اہل سنت کے موقف کی تصدیق کرتے

ہوئے لکھا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے:

”دیوبندی عقیدہ بیان کیا ہے۔ خاتم النبیین کے معنی یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ آپ اصلی نبی ہیں باقی

عارضی۔ لہذا اگر حضور صلعم کے بعد اور بھی نبی آجاویں تو بھی خاتمیت میں فرق

نہ آئے گا (تخذیر الناس، مصنفہ مولوی محمد قاسم صاحب، مدرسہ دیوبند) مفتی

صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے صحیح دیا ہے۔“

(معرکت حق و باطل صفحہ 784 مدینہ کتاب گھر، اردو بازار، گوجرانوالہ)

مندرجہ بالا اقتباس سے ثابت ہوا کہ مولوی خواجہ قاسم غیر مقلد نے بھی اپنے ”ہم
مخرج“ مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی تکفیر کو درست قرار دیتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت
کی تائید کر دی ہے۔ الحمد للہ۔

مولوی زبیر علی زئی کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم نبوت

ہونے کا فتویٰ:

☆ غیر مقلدین کے مزعومہ ”بیہقی، زماں“ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی
کتاب ”بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم“ میں عنوان ”ختم نبوت پر ڈاکہ“ کے تحت لکھا ہے:
”اہل حدیث کو مسجدوں سے نکالنے والوں کا ختم نبوت کے بارے میں عجیب
وغریب عقیدہ ہے۔ محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند صاحب لکھتے ہیں:
”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوتا پھر بھی خاتمیت محمدی
میں کچھ فرق نہ آئے گا“۔ (تخذیر الناس صفحہ 34) تنبیہ: اصول حدیث میں
یہ مسئلہ ہے کہ نبی پر پورا درود لکھنا چاہئے۔ صرف اشارہ کر دینا (مثلاً ص،
صلعم) صحیح نہیں ہے۔ دیکھئے مقدمہ ابن الصلاح مع التقیید والایضاح
صفحہ 208، 209 وغیرہ“

(بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم، صفحہ 26، مطبوعہ مکتبہ الحدیث، حضرو، انک)

اس اقتباس میں غیر مقلد مولوی زبیر علی زئی نے اعلیٰ حضرت کے موقف کی تائید
کرتے ہوئے مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کو منکر ختم نبوت قرار دے دیا ہے۔

مولوی زبیر علی زئی کے نزدیک اثر ابن عباس شاذ و مردود روایت ہے:

☆ زبیر علی زئی صاحب نے اثر ابن عباس کو بھی شاذ و مردود روایت قرار دیتے
ہوئے لکھا ہے:

”ایک شاذ و مردود روایت کی بنا پر آل دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ سات

زمینیں ہیں اور ہر زمین میں ہمارے نبی خاتم النبیین جیسے نبی (ﷺ) خاتم النبیین) ہیں۔ اس دیوبندی عقیدے کی وجہ سے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ختم نبوت پر سخت زد پڑتی ہے۔ لہذا راقم الحروف نے اس دیوبندی عقیدے کو غلط اور گند اعقیدہ قرار دیا ہے۔“

(ماہنامہ ”ضرب حق“، سرگودھا، صفحہ 21، مئی 2012ء)

مذکورہ اقتباس میں مولوی زبیر علی زئی نے ”اثر ابن عباس“ کو شاذ اور مردود روایت قرار دیا ہے۔ ہم اہل سنت کا مؤقف ہے کہ اثر ابن عباس کا جو نیا مفہوم مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب نے مُراد لیا ہے اس سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے اپنے نئے مفہوم کا اقرار کرتے ہوئے قاسم نانوتوی دیوبندی خود ”تحدیر الناس“ میں لکھتے ہیں:

”میں نے بھی اک نئی بات کہہ دی تو کیا ہوا“

(تحدیر الناس صفحہ ۷۳ مطبوعہ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی)

مولوی وہابی زبیر علی زئی نے اپنی کتاب ”امین اوکاڑوی کا تعاقب“، مطبوعہ نعمان پبلی کیشنز کے صفحہ 8 پر ایک عنوان ”دیوبند اور قادیانیت“ کے تحت بھی مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کا رد کیا ہے۔

مولوی عبدالمنان شورش کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ غیر مقلد مولوی عبدالمنان شورش صاحب اپنی کتاب طمانچہ میں قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بانی دیوبندیت قاسم نانوتوی لکھتے ہیں: ”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی میں کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“۔ (تحدیر الناس، صفحہ 25) قادیانی بھی اس طرح کہتے ہیں کہ نبی خاتم النبیین ہیں۔ لیکن مرزے کی نبوت سے آپ کی ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آتا“۔

(طمانچہ صفحہ 58، 59۔ ناشر عبدالمنان شورش محلہ اسلام آباد، چوٹی زیریں، ڈیرہ غازی خان)

ضروری نوٹ: یہ کتاب 4 غیر مقلد وہابی علماء کی مصدقہ ہے۔

مولوی عبدالغفور اثری کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم نبوت

ہونے کا فتویٰ:

☆ غیر مقلد وہابی مولوی عبدالغفور اثری صاحب بھی مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کو منکر ختم نبوت قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بانی دارالعلوم دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی (المتوفی 1297ھ) نے لکھا ہے: ”سوعوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں“۔ (تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، صفحہ 32) ب: اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ (تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، صفحہ 56) ج: اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“۔

(حقیقت و مرزائیت، صفحہ 139 تا 141 ناشر المجدیٹ پبلیشنگ فورس محلہ واٹر ورکس سیالکوٹ، باراؤل 1987)

سعودی عرب سے شائع شدہ کتاب میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی

تردید:

☆ سعودی عرب کی مطبوعہ ”کیا علماء دیوبند اہل سنت ہیں؟“ نامی کتاب میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی کتاب ”تحذیر الناس“ میں ختم نبوت کے انکار پر مشتمل عبارات صفحہ 26، 27 پر نقل کر کے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ایسے عقائد رکھنے والے علماء دیوبند کو اہل سنت کیسے مانا جاسکتا ہے؟“

(کیا علماء دیوبند اہل سنت ہیں؟ صفحہ 29، مترجم توصیف الرحمن راشد غیر مقلد وہابی، مطبوعہ المکتب التعاونی للدعوة والارشاد توعیة الجالیات بالسلی، ریاض)

اگلے صفحہ پر مزید لکھا ہے:

”ان نظریات کے حاملین علماء دیوبند اہل سنت نہیں ہو سکتے۔“

(کیا علماء دیوبند اہلسنت ہیں؟ صفحہ 30، مترجم توصیف الرحمن راشد غیر مقلد وہابی، مطبوعہ المکتب التعاونی للدعوة والارشاد توعیة الجالیات بالسلی، ریاض)

مولوی طالب الرحمان غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ مشہور غیر مقلد وہابی مولوی ڈاکٹر طالب الرحمن (راولپنڈی) نے اپنی کتاب ”دیوبندی تارخ و عقائد“ میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کو ختم نبوت کی طرف پیش قدمی کرنے والا قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

”خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کی تشریح مولانا قاسم نانوتوی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ (تحدیر الناس، صفحہ 25) اور جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے معنوں کی تشریح میں اسی مسلک پر قائم ہے جو ہم نے سطور بالا میں جناب قاسم نانوتوی کے حوالہ جات سے ذکر کیا گیا۔“

(دیوبندی تارخ و عقائد، صفحہ 175، مطبوعہ مکتبہ بیت الاسلام، ریاض)

دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ دیوبندیوں کے ”ہم مخرج“ غیر مقلد پروفیسر مولوی طالب الرحمن نے بھی دیوبندی فرقہ کو منکر ختم نبوت قرار دے کر اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تائید کر دی ہے۔ الحمد للہ



مولوی شفیق الرحمن زیدی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختم
نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ مولوی طالب الرحمن غیر مقلد کے بھائی مولوی شفیق الرحمن زیدی نے بھی
مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی کتاب ”تحذیر الناس“ کی عبارات کو انکارِ ختم نبوت پر مبنی
قرار دیا ہے۔ زیدی صاحب لکھتے ہیں:

”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیتِ محمدی ختم نبوت
میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“ ختم نبوت کے اس تبدیل شدہ مفہوم کی بنیاد پر قاسم
نانوتوی صاحب لکھتے ہیں ”اطلاقِ خاتم اس بات کو منقضی ہے کہ تمام انبیاء کا
سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوتا یہ جیسا انبیاء گزشتہ کا وصف نبوت میں آپ کی
طرف محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج
نہ ہونا اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور اس طرح اگر فرض کیجئے آپ کے
زمانے میں بھی اس زمین پر یا کسی اور زمین پر یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی
اس وصف نبوت میں آپ کا محتاج ہوگا۔“ (تحذیر الناس، صفحہ 12) دوسری
جگہ لکھتے ہیں۔ ”غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا
تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ نبی کی نسبت خاص نہ ہوگا اگر بالفرض آپ کے
زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا
ہے۔“ (تحذیر الناس، صفحہ 13) ”ہاں اگر خاتمیت بمعنی اوصافِ ذاتی
بوصف نبوت لیجئے جیسا کہ اس عاجز نے عرض کیا ہے تو پھر سوائے رسول اللہ
صلعم اور کسی کو افرام مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی صلعم نہیں کہہ سکتے بلکہ اس
صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی پر آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی
بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیتِ محمدی میں
کچھ فرق نہ آئے گا۔“ (تحذیر الناس، صفحہ 24) یہ گمراہ عقائد نہ قرآن حکیم کی

کسی آیت سے ثابت ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے
حتیٰ کہ صحابہ کرام اور ائمہ اہل سنت ان نظریات سے بری تھے۔
(حُب رسول کی آڑ میں مشرکانہ عقائد، صفحہ 75 محمد پبلشرز، G, 11/2, St, 64، اسلام آباد ایضاً، صفحہ
111، 112 مطبوعہ سلفی کتب خانہ 40/A، نورالحق کالونی، بہاولپور)

مولوی توصیف الرحمان راشدی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی
پر منکرِ ختمِ نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ غیر مقلدین کے مشہور مولوی توصیف الرحمان راشدی نے اپنی
کتاب ”نورِ محمدی کی تخلیق اور عقائدِ صوفیائی“ میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی کتاب
”تحدیر الناس“ کی عبارات کو ختمِ نبوت کے منافی قرار دیا ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی
دیوبندی کی عبارات نقل کرنے سے پہلے لکھتے ہیں:

”ختمِ نبوت کے اس تبدیل شدہ مفہوم کی بنیاد پر قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں“
(نورِ محمدی اور عقائدِ صوفیاء صفحہ ۵۰ مطبوعی المعهد الاسلامی للبنات، نزد مسجد پیر مبارک شاہ، عبدالکیم
خانوال) (باراؤل ۳۰۰۳ بی)

اس کے بعد اگلے صفحے پر ختمِ نبوت کے انکار کے سلسلے میں مولوی قاسم نانوتوی
دیوبندی صاحب کی یہ عبارت بھی نقل کی ہے
”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہوتا تو پھر بھی
خاتمیتِ محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“

(نورِ محمدی اور عقائدِ صوفیاء صفحہ ۵۱ مطبوعی المعهد الاسلامی للبنات، نزد مسجد پیر مبارک شاہ، عبدالکیم
خانوال) (باراؤل ۳۰۰۳ بی)

مولوی محمود سلفی کی طرف سے اہل سنت کے موقف کی تائید:

☆ غیر مقلد مولوی محمود احمد سلفی ابن مولوی اسماعیل سلفی کانگریسی نے اپنی

کتاب ”علمائے دیوبند کا ماضی“ میں دیوبندیوں کے بارے میں لکھا ہے:
”اگر دیوبندی اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتے اور اپنے علمی گھمنڈ کی وجہ سے تکبر نہ کرتے اور اپنے غلط موقف سے رجوع کر لیتے تو حنفی علماء و فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے، دیوبندیوں نے اجرائے نبوت میں مرزا صاحب کی ہم نوائی کر کے تاریخ میں اپنا نام مستقل طور پر ہٹ دھرمیوں میں لکھوا لیا۔“

(علمائے دیوبند کا ماضی - صفحہ 53، مطبوعہ ادارہ نشر التوحید والسنہ، لاہور)

مولوی محمود سلفی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر

ختم نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ مولوی حکیم محمود احمد سلفی نے مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کو مرزا قادیانی کا استاد قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

”قاسم نانوتوی صاحب ”تخذیر الناس“ پر فرماتے ہیں: ”بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔“ مزید سنیہ صفحہ 18 پر فرماتے ہیں کہ ”آپ کے زمانہ میں بھی کوئی نبی ہو تو جب بھی آپ کا خاتم بدستور باقی رہتا ہے۔“ ملاحظہ فرمایا جناب نے! آپ کا مرزا صاحب سے کتنا گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے اس نے یہ مسئلہ آپ سے سیکھا ہے۔“

(علمائے دیوبند کا ماضی، صفحہ 55، مطبوعہ ادارہ نشر التوحید والسنہ، لاہور)

یہ بات بھی بالکل درست ہے کیوں کہ دجال اعظم مرزا قادیانی لعین نے ”تخذیر الناس“ لکھے جانے کے بعد ہی دعویٰ نبوت کیا تھا۔

مولوی عطا اللہ ڈیروی کی طرف سے دیوبندی مجلس تحفظ ختم نبوت کا رد:

☆ غیر مقلد وہابی مولوی عطاء اللہ ڈیروی نے اپنی کتاب ”تبلیغی جماعت عقائد و افکار نظریات اور مقاصد کے آئینہ میں“ میں دیوبندیوں کے امام مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کے بارے میں لکھا ہے:

”مولانا قاسم نانوتوی اپنے رسالہ ”تحدیر الناس“ میں فرماتے ہیں کہ ”آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سو آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض، اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں غرض آپ جیسے نبی الامت ہیں ویسے ہی نبی الانبیاء بھی ہیں۔“ (صفحہ 6) اور اسی رسالہ میں موصوف ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ”غرض اگر اختتام مابین معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گذشتہ کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور خاتم رہتا ہے۔“ اور اسی رسالہ میں ایک دوسری جگہ رقم فرماتے ہیں کہ ”اور اسی طرح فرض کیجئے آپ کے زمانے میں بھی اس زمین یا کسی اور زمین یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ اس وصف نبوت میں آپ کا ہی محتاج ہوگا۔“ (صفحہ 17) اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جو لکھا اس سے تو نبوت کا دروازہ مکمل طور پر کھل جاتا ہے فرماتے ہیں کہ ”اگر آپ کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا۔“ (صفحہ 37) قابل غور مقام ہے کہ بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے بیان کے مطابق اگر آپ کے بعد بھی نبی آجائے تب بھی آپ خاتم الانبیاء ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں مرزا غلام احمد قادیانی و دیگر جھوٹے نبیوں کے دعوائے نبوت کے خلاف سمجھنے میں آخر کیا جواز رہ جاتا ہے اور جماعت دیوبند یہ جب آپ کے بعد ہر قسم کے نبی کے آنے کو ختم نبوت کے خلاف نہیں سمجھتی تو وہ ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کیوں بنا کر بیٹھی ہے اور جب یہ جماعت ہر جھوٹے نبی کے آنے کے لئے دروازہ کھول کر بیٹھی ہے تو پھر دنیا میں کسی مدعی نبوت کے خلاف شور کس لئے چاتی ہے؟ کیا اس جماعت کی مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے دینا غلط ہوگا جو عہد ا یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر شام کے وقت

باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اس جماعت کی مثال اس قوم کی ہے جس نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور اپنے اس جرم کو چھپانے کے لئے آج تک ماتم برپا کئے ہوئے ہے۔

(تبلیغی جماعت، عقائد و افکار نظریات اور مقاصد، صفحہ 115، 116)

اس طویل اقتباس میں غیر مقلد مولوی نے مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی عبارات کو ختم نبوت کے منافی قرار دیتے ہوئے ان کا شدید رد کیا ہے اور اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی حقائق پر مبنی اور نہایت پر لطف ہے یہی بات کل تک ہم اہل سنت کہتے تھے اور بالآخر آج دیوبندیوں کے ”ہم مخرج“ بھائیوں کو بھی اس مسئلہ میں اہل سنت کی تائید کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا، یوں میرے امام، امام اہلسنت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ الحمد للہ

مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے ذمہ دار دیوبندی علماء ہیں، غیر مقلد مولوی

عطاء اللہ ڈیروی:

☆ مندرجہ بالا اقتباس کے بعد غیر مقلد وہابی مولوی عطاء اللہ ڈیروی ”تحذیر الناس“ کا پس منظر بیان کرنے کے بعد (دیوبندیوں کا مزید رد کرتے ہوئے) لکھتے ہیں:

”اس تمام قصہ کو معلوم کر لینے کے بعد اب دیوبندی علماء کی جانب سے ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کے قیام کا سبب کھل کر ہمارے سامنے آجاتا ہے اور وہ سبب ہے خوف! یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دیے جانے کے بعد ختم نبوت کے مسئلہ میں اپنے سیاہ ماضی کا کچھ بیان ہم آگے کریں گے کہ دیکھتے ہوئے دیوبند علماء کو یہ خوف لاحق ہوا کہ بریلوی حضرات ان کے خلاف بھی کہیں کافر قرار دیئے جانے کی مہم نہ شروع کر دیں۔ جس کے نتیجے انہیں کافر تو بہر حال نہیں قرار دیا جا سکا۔ کیونکہ دیوبندی اپنے بیشتر عقائد میں شیعوں کی طرح تقیہ کرتے ہیں مگر

جو تحریریں ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ عوام کے سامنے آجائیں گی جس سے مسلکِ دیوبند کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ حفظِ مآئد کے طور پر دیوبندیہ نے ”مجلس تحفظِ ختمِ نبوت“ قائم کی گویا ”مجلس تحفظِ ختمِ نبوت“ کو اگر ”مجلس تحفظِ مسلکِ دیوبند“ کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا ہمارا دعویٰ ہے کہ ختمِ نبوت کے سلسلہ میں مسلکِ دیوبند کا عقیدہ اہلسنت والجماعت سے موافق نہیں ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے دعویٰ کے اصل ذمہ دار یہ دیوبندی علماء ہی ہیں کیونکہ قادیانی مذہبی اعتبار سے حنفی دیوبندی ہیں اور ختمِ نبوت کے ضمن میں ان کی اس لغزش کا سبب دیوبندی علماء کی کتابیں ہیں۔

(تبلیغی جماعت عقائد و افکار نظریات اور مقاصد، صفحہ 117، 118۔ افادات مولوی عطاء اللہ ڈیروی غیر

مقلد از قلم ابوالوفاء محمد طارق خان، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ (پاکستان))

یہاں بھی غیر مقلد مولوی صاحب نے دیوبندی فرقہ کا شدید رد کیا۔ اور علماء دیوبند کو تقیہ باز قرار دیتے ہوئے اہل سنت کے موقف کی تصدیق کر دی۔ الحمد للہ

☆ غیر مقلد مولوی عطاء اللہ ڈیروی نے اپنی کتاب ”دیوبندی اور تبلیغی جماعت کا تباہ کن عقیدہ تصوف“ میں بھی مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کو منکرِ ختمِ نبوت قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

”مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے رسالہ ”تخذیر الناس“ صفحہ 18

میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جھوٹے نبیوں کے لئے بھی دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ”بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور رہتا ہے“ اور صفحہ 17 میں لکھا ہے ”اور اسی طرح اگر فرض کیجئے۔ آپ کے زمانے میں بھی اسی زمین یا کسی اور زمین یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اسی وصفِ نبوت میں آپ کا محتاج ہوگا“۔ اور صفحہ 34 میں لکھا ہے۔ ”اگر آپ کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیتِ محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“ ان کھلے

بیانات کے بعد بھی کوئی دیوبندی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں خَاتَمَ النَّبِيِّینَ مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ظلی ہو، یا بروزی نہیں آئے گا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یا اپنے اکابرین کے عقائد و اقوال و بیانات کو جھٹلاتا ہے۔“

(دیوبندی اور تبلیغی جماعت کا تباہ کن عقیدہ صوفیت، صفحہ 142، 143 مولوی عطاء اللہ ڈیروی غیر مقلد

وہابی۔ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ (پاکستان))

یہ تبصرہ بھی بالکل درست ہے۔

مولوی طیب الرحمان زیدی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختم نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ مولوی طیب الرحمان زیدی غیر مقلد صاحب نے اپنی کتاب میں دیوبندی فرقہ کے متعلق ”اکابر پرستی اور غلو“ کا عنوان قائم کر کے اس کے تحت لکھا ہے: ”موصوف جن کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں ان کا ختم نبوت کا عقیدہ پڑھیں پھر انصاف سے فیصلہ کریں کیا یہ لوگ امامت کے قابل ہیں ملاحظہ فرمائیں: قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند لکھتے ہیں ”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا (تحدیر الناس صفحہ ۳۴)۔“

(نماز میں امام کون؟ صفحہ ۹۹، ۱۰۰)

مولوی داؤد ارشد غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکرِ ختم نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ مولوی داؤد ارشد غیر مقلد صاحب اپنی کتاب ”تحفہ حنفیہ“ میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کو منکرِ ختم نبوت قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آل دیوبند کا مقتدا اعظم اور بانی دارالعلوم دیوبندی مولوی قاسم علی نانوتوی لکھتا ہے کہ ”سعوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ فرمانا اس صورت میں کیونکر ہو سکتا ہے۔“ (تخذیر الناس صفحہ 3) ”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“ (ایضاً ص 28) ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ جس سیرھی پر مرزا غلام احمد قادیانی چڑھا ہے اس کو تیار کرنے والے۔ آل دیوبند کے بزرگ تھے جو غالباً دعوی نبوت کرنا چاہتے تھے مگر مناسب ماحول میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہمت نہ کر سکے۔“

(تحفہ حنفیہ بجواب تحفہ اہل حدیث صفحہ 529 مطبوعہ نعمانی کتب خانہ، اردو بازار، لاہور)

مولوی عبدالستار نیازی غیر مقلد کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم

نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ غیر مقلد مولوی عبدالستار نیازی (فیصل آباد) نے اپنی کتاب ”علماء دیوبند کی سیرت و کردار المعروف دیوبندیت“ میں ”ختم نبوت اور قاسم نانوتوی“ کا عنوان دے کر اس کے تحت لکھا ہے:

”ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ اس نے خَاتَمُ النَّبِيِّنَ کی ایسی تفسیر کی کہ جو اور کسی عالم کے حصے میں نہ آئی چنانچہ قاسم نانوتوی خَاتَمُ النَّبِيِّنَ کی تفسیر و تعبیر ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ”عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے ہاں اگر اس وصف کو اوصافِ مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقامِ مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخرِ زمانی صحیح ہو سکتی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی، تحذیر الناس ۴۱ مولوی قاسم نانوتوی قاسم نانوتوی صاحب کی مذکورہ بالا تحریر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ سے مراد عوام کے خیال میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اور سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں لیکن اہل علم طبقہ (قاسم نانوتوی جیسا) جانتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں کہ کوئی پہلے یا بعد میں آئے۔ نانوتوی کے نزدیک ختم نبوت کی حقیقت: درحقیقت قاسم نانوتوی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا راستہ ہموار کرنے کے لئے ختم نبوت کی اصل تفسیر کو بدلنے کی ناکام کوشش کی ہے اور ”تحذیر الناس“ نامی کتاب لکھ کر مرزا غلام احمد قادیانی پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آسکتا اور اسی معنی کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے الا انه لانیبی بعدی کہ ”خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا“ تو گو یا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا معنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی فرمایا اور اسی معنی پر تمام امت کا اتفاق اور اجماع ہے لیکن ایک نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے امتِ مسلمہ کے اجماع کے خلاف خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا معنی کیا بلکہ تفسیر نبوی لانیبی بعدی کو بھی اس کم عقل نے حالتِ جذب میں عوامی معنی قرار دیا اور اپنے منہ میاں مٹھو بن کر اور اپنے آپ کو اہل علم طبقہ میں شامل کر کے اپنے علمی موتی بکھیرنا شروع کر دیئے کہ آیتِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا یہ معنی کہ آخری نبی صحیح نہیں بلکہ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا اصل

معنی اور اس کی اصل مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے اور نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں جیسا کہ قاسم صاحب مرزا کے حق میں لکھی جانے والی کتاب ”تخذیر الناس“ میں اس بات کی صراحت کرتے ہیں ”سو اسی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو تصور فرمائیے یعنی آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔ اور وہی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے، ”تخذیر الناس ۴۴ مولوی قاسم نانوتوی۔ مذکورہ بالا تحریر میں قاسم صاحب نے ختم نبوت سے مراد یہ لی ہے کہ آپ کی نبوت ذاتی اور باقی انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کا فیض ہے گویا کہ باقی انبیاء کی نبوت آپ کے فیض سے ہے لیکن آپ کی نبوت کسی کا فیض نہیں بلکہ ذاتی نبوت ہے اور اس طرح آپ خاتم النبیین ہیں جب ختم نبوت کو ذات اور فیض پر محمول کر دیا تو یقیناً اگر کوئی نبی آپ کی زندگی میں اور بھی ہوتا تو بھی خاتم النبیین کے اس معنی پر حرف نہیں آتا یا بعد میں بھی کوئی نبی آ جائے تو وہ بھی آپ کے فیض سے نبی ہوگا تو خاتمیت نبوی میں فرق نہیں آئے گا کیونکہ قاسم صاحب کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ کی نبوت ذاتی اور باقی انبیاء کی نبوت آپ کا فیض ہے اور اسی بات کا تذکرہ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں آگے چل کر کیا ہے انہی کے الفاظ میں سنئے۔ ”غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گذشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، ”تخذیر الناس ۶۵ مولوی قاسم نانوتوی۔ قاسم نانوتوی نے پہلے اجماع امت کے خلاف معنی کر کے اپنی جہالت اور حالت مجذوبانہ کا ثبوت دیا خاتم کا معنی نبوت ذاتی کا کیا اور پھر یوں گویا ہوئے کہ خاتم کا معنی نبوت ذاتی ایک

ایسا معنی ہے جو میں نے تجویز کیا اور اس کا کمال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر میرا معنی ہی مراد لیا جائے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی اور نبی مانا جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے خَاتَمَ النَّبِيِّینَ کا معنی آخری نبی نہیں کیا بلکہ ذاتی نبوت کیا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے اور دوسرا نبی جو نبی علیہ السلام کے دور میں آیا اس کی نبوت آپ کی نبوت کا فیض ہے تو اس طرح اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر کوئی اور نبی مانا جائے تو پھر بھی ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور پھر یہاں تک بس نہ کیا بلکہ اس سے آگے چل کر پھر لکھتے ہیں: ”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“ تحذیر الناس ۸۵ مولوی قاسم نانوتوی۔ خلاصہ: آپ نے خَاتَمَ النَّبِيِّینَ کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحظہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اسی معنی پر امت کا اجماع ہے لیکن قاسم نانوتوی نے اس معنی کو عمومی معنی قرار دے کر علمی مویشگافی کرتے ہوئے خَاتَمَ النَّبِيِّینَ کا معنی یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت آپ کا فیض ہے اور پھر اپنے کئے گئے معنی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے کئے گئے معنی میں یہ خوبی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کوئی نبی آجائے یا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی (غلام احمد جیسا) پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا۔ کیونکہ جو بھی نبی آئے گا وہ آپ کے فیض سے نبی بنے گا نبوت اس کی ذاتی صفت نہ ہوگی، قاسم نانوتوی کا یہی ایک غلطوٹ تھا جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بہادر کر دیا تھا کہ اس نے خاتم النبیین کا وہی معنی شروع کر دیا کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے اور میری نبوت آپ کے فیض سے ہے اور اس طرح کی نبوت سی خَاتَمَ النَّبِيِّینَ کا انکار لازم نہیں آتا

، چنانچہ ختم نبوت کے خلاف لکھی گئی قادیانی تصانیف نزول مسیح اور حقیقت ختم نبوت میں مولوی قاسم نانوتوی ہی کی تشریح کو پیش کر کے ختم نبوت زمانی سے انکار کیا گیا اور اپنے مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا راستہ ہموار کیا گیا جو یا تمام جھوٹی نبوتوں کے راستوں کو ہموار کرنے والا مولوی قاسم نانوتوی ہی ہے۔

(علماء دیوبند کی سیرت و کردار المعروف ”دیوبندیت“ حصہ اول صفحہ ۱۷۲ تا ۱۷۷ مطبوعہ جامعہ

ثنائیہ، بم، اللہ ٹاؤن، پٹنسرہ، جھنگ روڈ، فیصل آباد۔ طبع دوم مارچ ۲۰۱۱ء)

کیپٹن مسعود الدین عثمانی غیر مقلد کے پیروکار کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر ختم نبوت کے منکر ہونے کا فتویٰ:

☆ مولوی نور محمد تونسوی دیوبندی نے اپنی کتاب ”هُوَ الْكَذَّابُ“ میں غیر مقلدین کے جدید ترقی یافتہ ایڈیشن کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے ایک پیروکار کی لکھی گئی تحریر کا اقتباس نقل کیا ہے جس میں لکھا ہے:

”ملا تونسوی ”تخذیر الناس“ وغیرہ میں درج اپنے اکابرین کی ان عبارتوں پر تو ایک نظر ڈال لیتے جو کتاب ”اسلام یا مسلک پرستی“ میں نقل کی گئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اگر بالفرض کوئی اور نبی بھی آ گیا تو اس سے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور یہ بعینہ وہی موقف ہے جو قادیانی کافروں نے اختیار کیا ہوا ہے (حبل اللہ ص ۹۰)“

(هُوَ الْكَذَّابُ صفحہ ۵۱، ۵۲ مطبوعہ مکتبہ عثمانیہ، ترندہ پناہ، تحصیل لیاقت پور۔ بار اول جولائی ۲۰۱۱ء)

اس اقتباس میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا گیا ہے اور ایک کتاب ”اسلام یا مسلک پرستی“ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ کتاب بھی راقم کے پاس موجود ہے، اس میں ”ختم نبوت پر ضرب“ کے عنوان کے تحت انکار ختم نبوت مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی یہ عبارت نمبر ۹ پر پیش کی گئی ہے:

”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوتا تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ تخذیر الناس صفحہ ۳۴“

(اسلام یا مسلک پرستی صفحہ ۲۲۱، ۲۲۰ مطبوعہ مسجد توحید، توحید روڈ، پوسٹ بکس نمبر ۷۰۲۸، کیمڑی، کراچی۔ بارچہارم ۱۳۲۱ھ)

مشہور وہابی نجدی عالم تقی الدین ہلالی کی طرف سے مولوی قاسم نانوتوی پر منکر ختم نبوت ہونے کا فتویٰ:

☆ وہابیہ کے مشہور عالم تقی الدین ہلالی، مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی کتاب ”تخذیر الناس“ کی عبارات کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وفی نظر العامة معنی کون الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتماً، أن عہدہ ہو بعد عهد الأنبياء السابقين كونه صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیعہم هو النبی الآخر، لكن يعرف أصحاب الفہم والبصيرة أن التقدم والتأخر الزماني ليس فيه فضيلة بالذات فكيف يصح في مقام المدح قوله تعالى: ولكن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ والجماعة القاديانية تسلك في معنی خاتم النبیین وشرحه الذي نقلناه عن الشيخ قاسم النانوتوی قریباً من هذا المسلك۔ ولو فرضنا وجود نبی بعد عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا يحصل من هذا أي فرق فی الخاتمية المحمدية“

(السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم صفحہ ۲۲ مطبوعہ دار الكتاب والسنة للطباعة والنشر والتوزيع، المقر الرئيسي والادارة ۹ شارع احمد اسماعيل متفرع منشية التحرير من شارع جسر السويس عين شمس الشرقية-القاهرة جمهورية مصر العربية۔ الطبعة الاولى ۲۰۰۷ء)

(مفہوم) ”عام لوگوں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زمانہ سب انبیائے سابقین کے زمانے کے بعد ہے اور آپ ان سب میں آخری نبی ہیں لیکن اصحاب فہم و بصیرت جانتے ہیں کہ زمانے کے تقدم و تاخر میں فی نفسہ کوئی فضیلت نہیں تو باری تعالیٰ کا یہ فرمان وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَقَامٍ مَّرْحُوْمٍ میں کیسے صحیح ہوگا۔“ اور خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے معنی اور شرح کے معاملہ میں جماعت قادیانی اسی راستے پر چلی ہے جو ابھی ہم نے شیخ قاسم نانوتوی کے حوالے سے نقل کیا ہے اور وہ یہ کہ ”اگر ہم زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کا وجود فرض کریں تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آتا۔“

تقی الدین صاحب کے اس اقتباس سے ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک بھی قادیانی انکارِ ختم نبوت کے متعلق جماعتِ دیوبند کے نقش قدم پر چلے ہیں اس مسئلہ پر ان کا موقف ایک ہے۔ ”تخذیر الناس“ کی تردید پر مشتمل مندرجہ بالا تمام اقتباسات (جن میں مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کو منکرِ ختم نبوت کہا گیا ہے) اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حقانیت کا ثبوت ہیں۔ لہذا غیر مقلد مولوی احسان الہی ظہیر کا یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے اکابرِ دیوبند کی طرف من گھڑت عقائد منسوب کیے تھے۔

تخذیر الناس کی ایک اور گستاخانہ عبارت کا رد غیر مقلدین کے قلم سے:

وہابی نجدی عالم تقی الدین ہلالی کی طرف سے ”تخذیر الناس“ کی عبارت

(اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ:

☆ وہابی نجدی عالم تقی الدین الہلالی المغربی نے مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی کتاب ”تخذیر الناس“ میں درج ایک اور گستاخانہ عبارت کا بھی رد کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں:

”فہو يقول فى كتابه تحذير الناس (ص ۵) ان الانبياء يمتازون بين
أمتهم بعلمهم، أما الأعمال ففي أكثر الأحيان يساويهم أتباعهم فى

الظاهر بل يتفوقون عليهم فى العمل

(السراج المُنِيرُ فى تَنْبِيهِ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ عَلَى أخطائِهِمْ صفحہ ۲۲ مطبوعہ دَار
الْكِتَابِ وَ السَّنَّةِ للطباعة والنشر والتوزيع، المقر الرئيسي والادارة ۹ شارع احمد
اسماعيل متفرع منشية التحرير من شارع جسر السويس عين شمس
الشرقية-القاهرة جمهورية مصر العربية- الطبعة الاولى ۲۰۰۷ء)

(مفہوم) ”قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب ”تحذیر الناس“ کے صفحہ 5 پر لکھا
ہے کہ ”انبیائے کرام اپنی امت میں اپنے علم سے ممتاز ہوتے ہیں رہی بات
اعمال کی تو اکثر اوقات انبیاء کے متبعین (یعنی امتی) عمل میں بظاہر نبی کے
برابر بلکہ ان سے فائق ہو جاتے ہیں“

☆ اس اقتباس کے بعد اگلے صفحہ پر تقی الدین ہلالی اس عبارت کا مزید رد
کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”أما زعمه أن أتباع الأنبياء يساؤون الأنبياء فى العمل بل يفوقونهم
فہو من الطوام الكبرى والضلالات العظمى“

(السراج المُنِيرُ فى تَنْبِيهِ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ عَلَى أخطائِهِمْ صفحہ ۲۳ مطبوعہ دَار
الْكِتَابِ وَ السَّنَّةِ للطباعة والنشر والتوزيع، المقر الرئيسي والادارة ۹ شارع احمد
اسماعيل متفرع منشية التحرير من شارع جسر السويس عين شمس
الشرقية-القاهرة جمهورية مصر العربية- الطبعة الاولى ۲۰۰۷ء)

(مفہوم) ”قاسم نانوتوی کا جو یہ گمان ہے کہ انبیاء کے متبعین کے عمل ان کے
مساوی یا ان سے فائق ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی مصیبت اور بڑی
گمراہیوں میں سے ہے۔“

☆ اس اقتباس کے بعد ایک حدیث شریف لکھ کر نانوتوی صاحب کا رد ان

الفاظ میں کرتے ہیں:

”فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ وَأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ فَكَيْفَ بغيرِهم فمن زعم أنه زاد على عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال فاسد الاعتقاد، لأن ما زاده يبعده من الله وهو في الحقيقة نقصان وخذلان فان أقوال النبي صلى الله عليه وسلم و افعاله و كل حر كاتة عبادة لا تساويها عبادة فكلام هذا القائل ضلال و هو س أصيب به، نسأل الله العافية“

(السِّيَرُخُ الْمُنِيرُ فِي تَنْبِيهِ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ عَلَى أَخْطَائِهِمْ صَفْحَةُ ۲۳، ۲۴ مطبوعه دآز الْكُتَابِ وَالسَّنَّةُ لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيغِ، الْمَقْرَرِ الرَّئِيسِيِّ وَالادَارَةُ ۹ شَارِعِ اَحْمَدِ اسْمَاعِيلِ مَتْفَرَعِ مَنْشِيَةِ التَّحْرِيرِ مِنْ شَارِعِ جَسْرِ السُّوَيْسِ عَيْنِ شَمْسِ الشَّرْقِيَّةِ الْقَاهِرَةِ جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ الطَّبَعَةُ الْاُولَى ۱۹۰۰ ع)

(مفہوم) ”پس دیکھو کہ یہ حدیث اس بات پر قطعی حجت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم تمام اولادِ آدم کے سردار اور علم و عمل دونوں میں سب انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں تو پھر انبیاء کے سوا دیگر لوگوں یعنی امتیوں سے کیونکر افضل نہیں ہوں گے؟ لہذا جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ عمل میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ گیا ہے تو وہ گمراہ اور فاسد الاعتقاد ہے کیونکہ جو عمل اس نے نبی علیہ السلام سے زائد کیا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والا اور درحقیقت نقصان اور رسوائی کا باعث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے سب اقوال و افعال اور تمام حرکات و سکنات ایسی عبادت ہیں کہ کوئی عبادت ان کے برابر نہیں ہو سکتی پس اس قائل کا یہ کلام گمراہی اور ہوس ہے جو اسے لاحق ہوئی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔“

وہابی نجدی عالم تقی الدین حلالی کے پیش کیے گئے تینوں اقتباسات سے ثابت ہوتا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی کا یہ عقیدہ (اُمّتی عمل میں انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں) بڑی مصیبت، بڑی گمراہی، رسوائی، ہوس، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والا ہے۔

مولوی عبدالرؤف غیر مقلد کا ”تخذیر الناس“ کی عبارت (اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ:

☆ غیر مقلد وہابی مولوی عبدالرؤف بھی مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کی ”تخذیر الناس“ کی ایک عبارت کے متعلق لکھتے ہیں:

”صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر ہی اکتفا نہیں کیا یا بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی توہین کی گئی۔ چنانچہ بانی دیوبند قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں: ”انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بہت وقتوں میں بظاہر امتی مساوی و برابر ہو جاتے ہیں بلکہ امتی نبیوں سے عمل میں بڑھ جاتے ہیں۔“

(تخذیر الناس صفحہ 52، مطبوعہ دیوبند منقول از وہابی مذہب 660/1) (احناف کی چند کتاب پر ایک

نظر صفحہ 194 دارالاشاعت اشرفیہ سندھ، قصور)

مولوی عبدالغفور اثری غیر مقلد کا ”تخذیر الناس“ کی عبارت (اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ:

☆ غیر مقلد مولوی عبدالغفور اثری نے اپنی کتاب ”حنفیت و مرزائیت“ کے باب چہارم میں ”غیر تشریحی و اُمّتی نبی اور مثیل انبیاء علیہم الصلاة والسلام بننے کے لئے چور دروازے“ کے عنوان کے تحت ”تخذیر الناس“ سے مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی یہ عبارت بھی نقل کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے:

”انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی

رہا عمل میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔
(حقیقت و مرزائیت، صفحہ 139 تا 141 ناشر المجدیث پوٹھ فورس ملہ واٹر ورس سیا لکھٹ، بار اول 1987)
مولوی ڈاکٹر طالب الرحمان غیر مقلد کا ”تخذیر الناس“ کی عبارت (اُمّتی
عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ:

☆ جیسا کہ پہلے صفحات میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ پروفیسر مولوی طالب
الرحمان غیر مقلد نے ”توہین انبیائی“ کے عنوان کے تحت مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی
صاحب کی انکار ختم نبوت کے متعلق عبارت نقل کی ہیں، اسی عنوان ”توہین انبیائی“ کے
تحت انہوں نے ”تخذیر الناس“ کی ایک اور گستاخانہ عبارت کو پیش کر کے لکھا ہے:
”نانوتوی صاحب نے یوں فرمایا، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو
علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی
مساوی ہو جائے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ (تخذیر الناس صفحہ 5)“

(دیوبندیت تارخ و عقائد، صفحہ 175، مطبوعہ مکتبہ بیت الاسلام، الریاض)
☆ پروفیسر مولوی طالب الرحمان غیر مقلد نے اپنی کتاب ”تبلیغی جماعت کا
اسلام“ مطبوعہ المعهد العالی للدراسات الاسلامیة والعصریة،
داولیندی (تاریخ اشاعت جنوری ۱۹۹۵ء) کے (صفحہ ۸۴ پر عنوان ”انبیاء کی تنقیص“
کے تحت) صفحہ ۸۵ پر مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی یہی عبارت نقل کی ہے۔

☆ طالب الرحمان غیر مقلد صاحب کی یہی کتاب ۱۴۲۲ ہجری میں ”مکتبہ
بیت السلام، الریاض، سعودی عرب“ سے ”تبلیغی جماعت، تارخ و عقائد“ کے نام سے
شائع ہوئی۔ اس ایڈیشن کے (صفحہ ۱۲۱ پر ”انبیاء کی تنقیص“ کے عنوان کے تحت) صفحہ
۱۲۲ پر قاسم نانوتوی دیوبندی کی اس عبارت کو نقل کیا گیا ہے۔

☆ مولوی طالب الرحمان غیر مقلد صاحب کی کتاب ”جماعة التبلیغ،
عقائدہا و تعریفہا“ مطبوعہ دار البیان للنشر والتوزیع، اسلام آباد، پاکستان

(تاریخ طبع ۱۴۱۹ھ جری) کے عربی ایڈیشن کے (صفحہ ۳۰۹ پر ”استخفاف بالانبياء عليهم الصلاة والسلام“ کے عنوان کے تحت) صفحہ ۳۱۰ پر مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کی یہ عبارت نقل کی ہے۔

مولوی عبدالستار نیازی غیر مقلد کا ”تخذیر الناس“ کی عبارت (اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) پر گستاخی کا فتویٰ:

☆ مولوی عبدالستار نیازی غیر مقلد صاحب، مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کی کتاب ”تخذیر الناس“ کی ایک اور عبارت کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”امتی کسی طرح نبی سے نہ علم میں اور نہ عمل میں آگے نکل سکتا ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی ہی ہیں جو یہ گپ ہانکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ”انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں“ تخذیر الناس ۷۴ مولوی محمد قاسم نانوتوی۔ یہ ہیں عقائد دارالعلوم دیوبند کے بانی کے کہ وہ عوام الناس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام اپنی امت سے صرف علم ہی میں افضل ہوتے ہیں باقی عمل تو اس میں کبھی امتی بھی ان کے برابر ہو جاتے ہیں اور کبھی امتی انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور قاسم صاحب نے اتنا نہ سوچا کہ جو اعمال میں نبی سے آگے قدم رکھے گا تو وہ اس امت سے بھی خارج ہو جائے گا“

(علماء دیوبند کی سیرت و کردار المعروف ”دیوبندیت“ حصہ اول صفحہ ۱۷۱ تا ۱۷۲ مطبوعہ جامعہ ثنائیہ، بسم اللہ ناؤن، پٹنسرہ، جھنگ روڈ، فیصل آباد۔ طبع دوم، مارچ ۲۰۱۱ء)

نیازی صاحب کے اس اقتباس سے ثابت ہوا کہ اُن کے نزدیک نانوتوی صاحب اُمّتی کے عمل میں نبی سے بڑھ جانے کو ممکن کہنے کی وجہ سے اُمّت سے باہر ہو گئے ہیں۔

وہابی نجدی عالم تقی الدین ہلالی، مولوی ڈاکٹر طالب الرحمان غیر مقلد، مولوی عبدالرؤف غیر مقلد، مولوی عبدالغفور اثری غیر مقلد اور مولوی عبدالستار نیازی غیر مقلد کے پیش کیے گئے اقتباسات سے ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کی یہ عبارت (اُمّتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے) بھی گستاخانہ ہے۔

اشرفعلی تھانوی دیوبندی کی کتاب ”حفظ الایمان“ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی پر مبنی عبارت کا رد مولوی زبیر علی زئی غیر مقلد کے قلم سے:

☆ غیر مقلد مولوی زبیر علی زئی، مولوی اشرفعلی تھانوی دیوبندی کی کتاب ”حفظ الایمان“ میں درج ان کی مشہور گستاخانہ عبارت کے متعلق لکھتے ہیں:

”ایک سوال کے جواب میں اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی لکھتے ہیں کہ ”آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔“ (حفظ الایمان، صفحہ 13، دوسرا نسخہ صفحہ 116) نیز دیکھیے ”الشہاب الثاقب“ صفحہ 98۔ اس گستاخانہ عبارت اور اس قسم کی دوسری عبارات کی وجہ سے احمد رضا خان بریلوی صاحب اور ان کے تابعین سخت مشتعل ہوئے اور دیوبندیوں پر فتویٰ لگا دیا۔“

(امین اوکاڑوی کا تعاقب صفحہ 9، ناشر نعمان پبلی کیشنز، ملنے کا پتہ مکتبہ اسلامیہ بالمقابل رحمان

مارکیٹ غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور)

اس اقتباس میں زبیر علی زئی صاحب نے صراحتاً تسلیم کر لیا کہ علمائے اہل سنت کی

طرف سے علمائے دیوبند کی گستاخانہ عبارات کی وجہ سے اُن پر لگایا گیا فتویٰ کفر برحق ہے۔

☆ مولوی زبیر علی زئی غیر مقلد اپنی زیر ادا رت شائع ہونے والے ماہنامہ ”الحدیث“ حضور میں بھی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کے متعلق لکھتے ہیں:

”اشرف علی تھانوی صاحب اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ ”پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔“ (حفظ الایمان، صفحہ 13) اس انتہائی دل آزر عبارت میں ایسا علم غیب کے لفظ سے کیا مراد ہے اس کی تشریح میں حسین احمد ٹانڈوی مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ ”ایسا“ تو کلمہ تشبیہ ہے۔ (الشہاب الثاقب صفحہ 103) معلوم ہوا کہ تھانوی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے معاذ اللہ یاد رہے کہ اس صریح گستاخی سے تھانوی کا توبہ کرنا ثابت نہیں ہے۔“

(ماہنامہ الحدیث، حضور، شمارہ نمبر 23 اپریل 2006ء، صفحہ 45)

☆ زبیر علی زئی صاحب نے ماہنامہ ”الحدیث“، حضور میں تھانوی صاحب کی گستاخانہ عبارت کا مزید رد کرتے ہوئے لکھا:

”بعض آلِ دیوبند نے جمیع حیوانات و بہائم اور ہر صبی و مجنون کے ساتھ بعض علوم غیبیہ کا انتساب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے تشبیہانہ مقابلہ کیا دیکھیے اشرف علی تھانوی کی ”حفظ الایمان“ مع التحریفات صفحہ

116 طبع انجمن ارشاد المسلمین لاہور۔

(ماہنامہ الحدیث حضور، صفحہ 17 فروری 2013ء، شماره نمبر 102)

مولوی اشرف علی تھانوی اور اس کے کلمہ گوکار، وہابی نجدی عالم تقی الدین ہلالی کے قلم سے:

☆ وہابی نجدی عالم تقی الدین ہلالی نجدی لکھتے ہیں:

”ثم ذكر في (ص ۲۱) قصة له مع أحد مردييه، وهي أن المرید كتب له: ”انني رأيت نفسي في المنام بأني كَلَّمَا أسعى أن أقول كلمة الشهادة على وجهها الصحيح، يجرى على لساني بعد لا اله الا الله: اشرف على رسول الله، فيجيب التهانوي عن ذلك ويقول: انك تحبني الى غاية هذه الدرجة، وهذا ثمرة هذا الحب و نتيجة، وقد قص هذا المرید في خطابه وجهه الى مرشده التهانوي هذه القصة، فقال له بعد ذكر الرؤيا فاستيقظت من الرؤيا فلما خطر ببالي خطأ كلمة الشهادة؛ أردت أن أطرح هذا من قلبي، ولهذا القصد جلست، ثم اضطجعت على الشق الثاني، وبدأت أقول: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لآتدارك هذا الخطأ، لكنني قلت: اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا اشرف على، والحال أني مستيقظ الآن ولست في رؤيا، مع هذا أنا مضطرب ومجبور، ولا أقدر على لساني! وكان جواب الشيخ التهانوي؛ لهذا المرید أن قال: ”في هذا تسليية لك بأن الشخص الذي ترجع اليه هو بعون الله وتوفيقه متبع السنة“ قال محمد تقى الدين: هذا كفر من المرید الذي ينبغي أن يسمي مریداً بفتح الميم وشيخه شر منه؛ لأنه أقره على الكفر، وكان الواجب

علی الشیخ، لو کان مہتدیاً سالکاً محجّة الصواب۔ أن یقول لمریده۔ بل مریده: ثب الی اللہ من هذا الکفر، فقد أضلک الشیطان؛ فان رسول اللہ لہذہ الامّة المحمدیة واحد، وهو محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، وأعوذ أن أرضی بما جرى علی لسانک من نزغات الشیطان“

(الشیخ المُنیر فی تَنْبِیہ جَمَاعَةِ التَّبْلِیغِ عَلَی اَخطَائِهِمْ صفحہ ۶۷ مطبوعہ دار الکتب والسنة للطباعة والنشر والتوزیع، المقر الرئيسي والادارة ۹ شارع احمد اسماعیل متفرع منشية التحرير من شارع جسر السويس عين شمس الشرقية۔ القاهرة جمهورية مصر العربية۔ الطبعة الاولى ۲۰۰۷ء)

یعنی ”اشرفعلی تھانوی نے صفحہ 21 پر اپنے ایک مرید کے ساتھ پیش آنے والا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایک مرید نے اسے لکھا: ”میں نے خواب میں خود کو اس حال میں دیکھا کہ کلمہ شہادت کو صحیح طریقہ پر ادا کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں مگر لا الہ الا اللہ کے بعد میری زبان پر اشرف علی رسول اللہ جاری ہو جاتا ہے۔“ تھانوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”تم مجھ سے غایت درجہ (بہت زیادہ) محبت کرتے ہو یہ اسی محبت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔“ اور اس مرید نے یہ قصہ خط کے ذریعے اپنے مرشد اشرفعلی تھانوی کو بھیجا تھا، پھر اس مرید نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا کہ ”میں بیدار ہوا تو میرے دل میں کلمہ شہادت کی خطا کا خیال آیا، میں نے اس کلمہ کو اپنے دل سے نکالنا چاہا سو اس مقصد کے لئے بیٹھا پھر دوسری کروٹ پر لیٹ گیا اور اس خطا کے تدارک کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگا لیکن اس بار جبکہ میں خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں تھا تو اللہم صل علی سیدنا ونبینا و مولانا اشرف علی پڑھنے لگا، میں بے قرار اور مجبور تھا پر مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں تھا۔“ توشیخ تھانوی نے اس مرید کو یہ

جواب دیا کہ ”اس واقعہ میں تمہارے لئے تسلی ہے کہ تم جس شخص کی جانب رجوع کرتے ہو وہ اللہ کی مدد اور توفیق سے متبع سنت ہے۔“ محمد تقی الدین کہتا ہے کہ یہ اس مرید کا کفر ہے جسے مرید کی بجائے مرید (سخت سرکش، بہت شریر) کہنا چاہئے اور اس کا یہ شیخ اس سے بڑھ کر شریر ہے کہ اس نے اس کے کفر کو برقرار رکھا حالانکہ شیخ اگر ہدایت یافتہ، سیدھی راہ پہ چلنے والا اور درست بات کے لئے جھگڑنے والا ہوتا تو اس پر لازم تھا کہ اپنے مرید بلکہ مرید سے کہتا کہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کفر سے توبہ کر، بے شک تجھے شیطان نے بہکا یا ہے کیونکہ اس امت محمدیہ کے لئے رسول اللہ ایک ہی ہیں اور وہ محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں اور جو شیطانیں و سوسے تیری زبان پہ جاری ہوئے میں ان پر راضی ہونے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔“

مولوی اشرف علی تھانوی اور اس کے کلمہ گوکار، وہابی نجدی عالم حمود بن

عبداللہ بن حمود التویجری کے قلم سے

☆ وہابی نجدی عالم حمود بن عبداللہ بن حمود التویجری نے بھی اپنی کتاب ”القول البلیغ فی التحذیر من جماعة التبلیغ“ (مطبوعہ دار الصمیعی للنشر والتوزیع الرياض۔ الطبعة الثانية ۱۹۹۷ء) کے صفحہ ۱۱۶، ۱۱۷ پر مولوی اشرف علی تھانوی کی اس عبارت کے رد کے لیے تقی الدین ہلالی وہابی نجدی کا مندرجہ بالا اقتباس اپنی تائید میں نقل کیا ہے ملاحظہ کریں۔

مولوی اشرف علی تھانوی اور اس کے کلمہ گوکار، مولوی طالب الرحمان غیر مقلد

کے قلم سے:

☆ مولوی طالب الرحمان غیر مقلد اپنی کتاب ”دیوبندییت، تاریخ و عقائد“ میں ”اشرف علی رسول اللہ“ کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں:

”جب ان کا مرید یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور پھر اٹھ کر بھی اس کے منہ سے درود پڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مولانا اشرف علی نکلتا ہے (رسالہ امداد ص ۳۵) تو بجائے اس کے اشرف علی صاحب اسے ڈانٹتے اور ایمان کی تجدید کرواتے وہ یہ بات کہتے ہیں: اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔“

(دیوبندییت تاریخ و عقائد، صفحہ 184، مطبوعہ مکتبہ بیت الاسلام، الریاض)

وہابی، دیوبندی عقیدہ امکان کذب باری تعالیٰ کا رد مولوی زبیر علی زئی کے قلم سے:

☆ غیر مقلد مولوی زبیر علی زئی صاحب عقیدہ امکان کذب باری تعالیٰ کے دیوبندی قائلین کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ بُری صفات مثلاً امکان کذب باری تعالیٰ کا انتساب صریحاً کفر ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے اور وہ تمام بُری صفات سے پاک ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بری صفات منسوب کرتا ہے وہ کافر ہے۔ سُبْحٰنَہٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُقُوْلُوْنَ غَلُوْا کِیْۤیْرًا“

(ماہنامہ الحدیث، صفحہ 28، بابت جنوری 2006 جلد 3، شمارہ 10)

☆ یہی زبیر علی زئی صاحب ماہنامہ ”الحدیث“، حضور میں امکان کذب کے متعلق مزید لکھتے ہیں:

”گنگوہی صاحب امکان کذب باری تعالیٰ (یعنی دیوبندیوں کے نزدیک اللہ جھوٹ بول سکتا ہے) کا عقیدہ رکھتے تھے امکان کا مطلب ہے ”ہوسکنا“ اور کذب کا معنی ”جھوٹ“ ہے باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یہاں خلف

وعید کا مسئلہ نہیں بلکہ امکانِ کذب کا مسئلہ کہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَنْ
أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اور اللہ سے کس کا قول سچا ہے۔ (سورہ النساء :
آیت 122) ان لوگوں کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ امکانِ کذب باری
تعالیٰ کا باطل اور گستاخانہ عقیدہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔

(ماہنامہ الحدیث حضور صفحہ 45، بابت ماہ اپریل 2006 شماره نمبر 23)

☆ زبیر علی زئی صاحب سرگودھا سے شائع ہونیوالے ماہنامہ ”ضرب حق
“ میں بھی دیوبندیوں کے عقیدہ امکانِ کذب باری تعالیٰ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”اللہ تعالیٰ کے بارے میں آل دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ امکانِ کذب تحت
قدرتِ باری تعالیٰ ہے۔ (دیکھئے تالیفات رشیدیہ صفحہ 98، علمی مقالات جلد 4،
صفحہ 427) رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے۔ ”پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت
قدر باری تعالیٰ جل و علیٰ ہے کیوں نہ ہو وَهُوَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ عَاقِدِينَ“ (تالیفات
رشیدیہ صفحہ 99)“

(ماہنامہ ضرب حق سرگودھا صفحہ 19، مئی 2012)

☆ اسی مضمون میں زبیر علی زئی صاحب مزید لکھتے ہیں:
”آل دیوبند اور ان کے ہمنواؤں کا امکانِ کذب باری تعالیٰ والا عقیدہ 1۔ نہ
تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ 2۔ نہ حدیث سے ثابت ہے۔ 3۔ اور نہ
اجماع امت سے ثابت ہے۔ 4۔ نہ تو یہ عقیدہ خیر القرون کے آثارِ سلف
صالحین سے ثابت ہے اور نہ اجتہادِ ابی حنیفہ سے ثابت ہے۔“

(ماہنامہ ضرب حق، سرگودھا صفحہ 20، مئی 2012)

☆ زبیر علی زئی صاحب کچھ سطروں بعد امکانِ کذب کو قرآن و حدیث کے
خلاف قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:
”یہ عقیدہ امکانِ کذب باری تعالیٰ تو ہیں ہے لہذا قرآن و حدیث کے خلاف
ہونے کی بنا پر مردود ہے۔“

(ماہنامہ ضرب حق سرگودھا صفحہ 21، مئی 2012)

مولوی عبد المنان شورش غیر مقلد کی طرف سے وہابی، دیوبندی عقیدہ امکان
کذب باری تعالیٰ کا رد:

☆ غیر مقلد وہابی عبد المنان شورش نے بھی دیوبندیوں کے عقیدہ امکان
کذب باری تعالیٰ کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے:
”رشید گنگوہی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بھی ممکن ہے فیصلہ آپ
پر ہے کہ اللہ کو جھوٹا کہنے والے کو جھوٹا کہیں یا نہ کہیں۔“

(طمانچہ صفحہ 61، جلد اسلام آباد چوٹی زیریں ڈیرہ غازی خان)

☆ اس کے بعد اگلے صفحے پر بھی سوالیہ انداز میں گنگوہی صاحب کے فتویٰ
امکان کذب کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے:
”کیا مولانا رشید گنگوہی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اللہ کا جھوٹ بولنا بھی ممکن
ہے؟“ (تذکرۃ الرشید ص ۲۲ ج ۱)

(طمانچہ صفحہ 62، جلد اسلام آباد چوٹی زیریں ڈیرہ غازی خان)

قاری حفیظ الرحمان غیر مقلد کی طرف سے وہابی، دیوبندی عقیدہ امکان
کذب باری تعالیٰ کا رد:

☆ قاری حفیظ الرحمان غیر مقلد آف چکی، سرگودھا نے ”تذکرۃ الرشید پر
ایک طائرانہ نظر“ کے نام سے لکھے گئے اپنے مضمون کی قسط دوم میں دیوبندی عقیدہ امکان
کذب کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے:

”افتراء علی اللہ: عاشق دیوبندی میرٹھی لکھتے ہیں: جس زمانہ میں مسئلہ
امکان کذب پر آپ کے مخالفین نے شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ شائع کیا سائیں
تو کل شاہ صاحب انبالوی کی مجلس میں کسی مولوی نے حضرت امام ربانی قدس

سرہ کا تذکرہ کیا اور کہا وہ امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہیں یہ سن کر سائیں تو کل شاہ صاحب نے گردن جھکالی۔ (تذکرۃ الرشید ۲/۳۲۲) تبصرہ: محترم قارئین امام ربانی دیوبندی کے بقول اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ہے جب سے یہ بات سامنے آئی تو مختلف علماء و عوام نے کفر کے فتوے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کا ہر لحاظ سے بھرپور تعاقب کیا پھر کچھ نامور علماء دیوبند تقلیدی مُلّاؤں نے اس کی تاویل میں نکالیں جس میں سے کچھ ”برابین قاطعہ“ نامی کتاب میں بھی موجود ہے لیکن ہمارا سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ لفظ کذب اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ کے لیے استعمال کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ (آج اگر عوام میں سے کوئی بھی شخص یہ کہے کہ امام ابوحنیفہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو تقلید پرست ضرور شور مچائیں گے) ”اگر تقلیدی مکتب میں اللہ تعالیٰ کا احترام و ادب اور محبتِ الہی یہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گستاخی و بے ادبی اور نفرت کی تعریف کیا ہوگی؟ حالانکہ اللہ رب العزت تو یہاں تک فرماتے ہیں: **وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا** اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے وہ ذات جو سچی ہو؟“ (نسائی: ۸۷) اور اللہ تعالیٰ کے بارہ میں یہ سوچنا بھی کفر ہے۔“

(ماہنامہ ضرب حق، سرگودھا۔ صفحہ ۳۵ شمارہ: ۳۴۴ بابت ماہ دسمبر ۲۰۱۳ء)

مولوی زبیر علی زئی، مولوی عبدالمنان شورش اور قاری حفیظ الرحمان سے ایک استفسار

☆ مسئلہ امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل کے متعلق غیر مقلد وہابی مولوی زبیر علی زئی صاحب نے گستاخ اور کافر ہونے کا فتویٰ جاری کیا اور غیر مقلد وہابی مولوی عبدالمنان شورش صاحب نے اس عقیدہ کے قائل کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنی کتاب ”یکروز“ میں امکان کذب باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لئے دلیل پیش کرتے ہوئے لکھا ہے:

پس لانسلم کہ کذب مذکور محال بمعنی مسطور باشد چہ۔۔ والا
لازم آید کہ قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی باشد
(یکروزی مع ایضاع الحق صفحہ 145 مطبع فاروقی دہلی مطبوعہ 1297 ہجری۔ ایضاً صفحہ 17،
فاروقی کتب خانہ، ملتان)

یعنی ”پس ہم نہیں مانتے کہ خدا کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہو۔۔ ورنہ لازم
آئے گا کہ انسانی قدرت خدا کی قدرت سے زیادہ ہو جائے۔“
☆ اسی صفحہ پر امام ابوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی مزید لکھتے ہیں:

عدم کذب را از کمالات حضرت حق سبحانہ می شمارند و ادراجل
شانہ بان مدح می کنند بخلاف اخرس و جماد۔۔ صفت کمال ہمیں
است کہ شخصہ قدرت بر تکلم بکلام کاذب می دارد۔

(یکروزی مع ایضاع الحق صفحہ 145 مطبع فاروقی، دہلی مطبوعہ 1297 ہجری۔ ایضاً، صفحہ
17۔ 18 مطبوعہ فاروقی کتب خانہ، ملتان)

یعنی ”جھوٹ نہ بولنے کو اللہ تعالیٰ کے کمالات سے شمار کیا جاتا ہے بخلاف اس
آدمی کے جو گونگا ہو۔۔۔ صفت کمال یہ ہے کہ اسے جھوٹ بولنے کی قدرت
ہو اور وہ کسی مصلحت کے تحت (جھوٹ) نہ بولے۔“

ان اقتباسات سے ثابت ہوا کہ اسماعیل دہلوی صاحب کے نزدیک بندہ جھوٹ بولتا
ہے تو خدا تعالیٰ بھی جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو بندہ کی قدرت اللہ
کی قدرت سے بڑھ جائے اور جو جھوٹ نہ بول سکے جیسے گونگا تو اس کی مدح نہیں کی جاتی
بخلاف اس کے کہ جسے جھوٹ بولنے کی طاقت ہو لیکن وہ نہ بولے۔ (نعوذ باللہ من ہذہ
الخرافات)

☆ غیر مقلد وہابی مولوی عبداللہ روپڑی صاحب امکان کذب کے متعلق
دیوبندی نظریہ کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”لازم آتا ہے کہ جھوٹی کلام کرنا بھی اللہ کے لئے عیب نہ ہو چہ جائیکہ اس پر

قدرت عیب کی ہو غرض اس قسم کے وجوہ بہت ہیں جو دیوبندیہ کے نظریہ کو ترجیح دیتے ہیں۔“

(توحید الرحمن صفحہ 138 محدث روپڑی اکیڈمی، جامعہ اہل حدیث، داگرہاں چوک، لاہور)

اس اقتباس میں مولوی عبداللہ روپڑی صاحب دیوبندیہ کے عقیدہ امکان کذب کو درست قرار دیتے ہیں۔ لہذا مولوی زبیر علی زئی غیر مقلد، مولوی عبدالمنان شورش غیر مقلد اور قاری حفیظ الرحمان غیر مقلد سے گزارش ہے کہ جس طرح عقیدہ امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل دیوبندی علماء کو گستاخ کافر اور جھوٹا قرار دیا ہے بالکل اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی اور مولوی عبداللہ روپڑی کو بھی عقیدہ امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر، گستاخ، اور جھوٹا قرار دیا جائے۔ انکار کی صورت میں معقول وجہ بیان کرنا ضروری ہے۔

مولوی رشید احمد گنگوہی و مولوی خلیل احمد انڈیٹھوی کی کتاب ”براہین قاطعہ“ کی گستاخانہ عبارت کا رد:

”براہین قاطعہ“ کی عبارت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی توہین ہے: مولوی زبیر علی زئی غیر مقلد کا مؤقف

☆ غیر مقلدین کے ”محدث دوراں“ اور ”بیہقی زمان“ زبیر علی زئی صاحب دیوبندی کتاب ”براہین قاطعہ“ میں درج گستاخانہ عبارت کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بعض آل دیوبندی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کا انکار کیا اور دوسری طرف کہا ”شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے (دیکھیے براہین قاطعہ بجواب انوار ساطعہ ص 55)“

اس کے کچھ سطر بعد زئی صاحب اس عبارت کو گستاخانہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مذکورہ عبارت باطل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا شیطان کے باطل علم سے تقارنہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی توہین ہے۔“

(ماہنامہ الحدیث، حضور صفحہ 17 فروری 2013ء، شمارہ نمبر 102)

مندرجہ بالا اقتباس سے کم از کم ہمارا موقف ثابت ہو گیا کہ ”براہین قاطعہ“ کی اس عبارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی توہین ہے۔ لہذا یہ عبارت بھی زیر علی زنی صاحب کے فتویٰ کی رو سے شدید گستاخانہ ہونے کی بنا پر کفریہ قرار پائی۔

مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی کے اللہ تعالیٰ سے متعلق جھوٹے دعویٰ کا رد:

☆ غیر مقلد مولوی عبدالمنان شورش صاحب، گنگوہی صاحب کا بھی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مولانا گنگوہی نے تو حد ہی کر دی کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ تیری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا۔“ (ارواحِ ثلاثہ، صفحہ 276، حکایت نمبر 308) یہ دعویٰ نبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور یہ وعدہ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اب وہی دعویٰ علماء دیوبند کر رہے ہیں۔“

(طمانچہ صفحہ 58، 59۔ ناشر عبدالمنان شورش محلہ اسلام آباد، چوٹی زیریں، ڈیرہ غازی خان)

شورش صاحب اک نظر ادھر بھی:

☆ امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر و مرشد سید احمد رائے بریلوی صاحب اپنی ہمشیرہ کے سامنے ایک دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”اے میری بہن میں نے تم کو خدا کے سپرد کیا اور یہ یاد رکھنا کہ جب تک ہندکا شرک اور ایران کا رخص اور چین کا کفر اور افغانستان کا نفاق میرے ہاتھ سے محو ہو کر ہر مردہ سنت زندہ نہ ہو لے گی اللہ رب العزت مجھ کو نہیں اٹھائے گا اگر قبل از ظہور ان واقعات کے کوئی شخص میری موت کی خبر تم کو دے اور تصدیق

خبر پر حلف بھی کرے کہ سید احمد میرے رُو برُو مر گیا یا مارا گیا تو تم اس کے قول پر ہرگز اعتبار نہ کرنا، کیونکہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ واثق کیا ہے کہ ان چیزوں کو میرے ہاتھ پر پورا کر کے مجھ کو مارے گا۔“

(تواریخ عجیبہ موسوم بہ سوانح احمدی، صفحہ 92، مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی، 1309ھ، ایضاً صفحہ 172، مطبوعہ نئیس اکیڈمی کراچی 1968ء)

☆ اس کے علاوہ امام الوہاب یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی کتاب ”صراط مستقیم“ میں اپنے پیر و مرشد سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں لکھا ہے:

تا اینکہ روزی حضرت جل و علا دست راست ایشان را بدست قدرت خاص خود گرفته و چیز را از امور قدسیہ کہ بس رفیع و بدیع بود پیش روی حضرت ایشان کرده فرمود کہ ترا این چنین دادہ ام و چیز ہائے دیگر خواہم داد

(صراط مستقیم، فارسی، صفحہ ۱۶۴ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ، شیش محل روڈ، لاہور)

(ترجمہ) ”ایک دن حضرت حق جل و علی نے آپ کا داہنا ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پکڑ لیا اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدیع تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور، اور چیزیں بھی عطا کریں گے۔“

(صراط مستقیم، صفحہ 221، مترجم مطبوعہ ادارہ نشریات اسلام، اردو بازار، لاہور)

اس کے کچھ سطر بعد دہلوی صاحب اپنے پیر کے متعلق مزید بیان کرتے ہیں:

از آن طرف حکم شد کہ ہر کہ بردست تو بیعت خواہد کرد گولکو کھا با شنہد بیک را کفایت خواہم کرد

(صراط مستقیم، فارسی، صفحہ ۱۶۵ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ، شیش محل روڈ، لاہور)

(ترجمہ) ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اگر چہ وہ لکھو کھا ہی کیوں نہ ہو، ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے۔“

(صراطِ مستقیم، صفحہ 222، مترجم مطبوعہ ادارہ نشریات اسلام، اردو بازار، لاہور)

شورش صاحب! آپ نے امام الوہابیہ کے پیرومرشد کے بلند بانگ دعوے ملاحظہ کیے۔ بتائیے یہ بھی دعویٰ نبوت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو گنگوہی صاحب کے دعویٰ (جو آپ کے بقول دعویٰ نبوت پر مشتمل ہے) اور سید احمد رائے بریلوی صاحب کے دعووں میں فرق واضح کیجئے۔

☆ یہ یاد رہے کہ سید احمد صاحب کے یہ دعوے پورے نہیں ہوئے۔ اس حقیقت کا اقرار مولوی ابوالحسن علی ندوی دیوبندی کے والد مولوی عبداللہ حسنی دیوبندی نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”اس کے بعد کچھ حضرت سید صاحب کے غیوبتہ و ظہور کا ذکر ہوا، ان سب لوگوں نے اس بے بضاعت سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس میں تو شک نہیں کہ سید صاحب نے اس قسم کی پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، لیکن وقوع میں اب تک اشتباہ ہے“

(دہلی اور اس کے اطراف صفحہ ۸۷ مطبوعہ مجلس نشریات اسلام، ۱۔ کے۔ ۳ ناظم آباد نمبر ۱، کراچی۔

طبع ۱۹۹۸ء)

مولوی ابوالحسن علی ندوی دیوبندی نے بھی اس اقتباس کو اپنی کتاب ”سیرت سید احمد شہید“ حصہ دوم کے صفحہ ۴۴۶ (مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی) پر نقل کیا ہے۔

غیر مقلد مولوی زبیر علی زئی کی طرف سے قاری طیب کا رد:

☆ مولوی زبیر علی زئی غیر مقلد نے اپنی کتاب ”بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم“ میں ”ختم نبوت پر ڈاکہ“ کا عنوان قائم کر کے قاری طیب دیوبندی صاحب کی عبارت کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے:

”قاری محمد طیب دیوبندی نے لکھا ہے کہ تو یہاں ختم نبوت کا یہ معنی سن لینا کہ دروازہ بند ہو گیا، یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ نبوت مکمل ہو گئی وہی کام دے گی۔

قیامت تک نہ یہ کہ منقطع ہوگی اور دنیا میں اندھیرا پھیل گیا (خطبات حکیم الاسلام، جلد 1، صفحہ 39) حالانکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ان الرسالة والنبوۃ قد انقطعت بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی۔ (سنن الترمذی 2272، وقال: صحیح غریب) رہا یہ کہنا کہ اندھیرا پھیل گیا تو یہ طیب صاحب کی گپ ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ دین اسلام کے ساتھ چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی ہے اور اب نہ کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نبی والحمد للہ۔

(بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم، صفحہ 26، مطبوعہ مکتبہ المدینہ الحدیث حضرت وانک)

غیر مقلد ڈاکٹر طالب الرحمن کی طرف سے قاری طیب کا دیوبندی رد:

☆ غیر مقلد مناظر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب بھی قاری طیب دیوبندی کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قاری طیب صاحب کا یہ بیان بھی ختم نبوت کی طرف پیش قدمی ہے لکھتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بخش بھی نکلتی ہے۔ کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فرد آپ کے سامنے آ گیا نبی ہو گیا۔“ (آفتاب نبوت، صفحہ 19)

(دیوبندی تاریخ و عقائد، صفحہ 175، مطبوعہ مکتبہ بیت الاسلام، الریاض)

اکابر دیوبندی کی گستاخانہ عبارات کے ضمن میں مولوی زبیر علی زئی اور مولوی طالب الرحمن غیر مقلد کی طرف سے قاری طیب دیوبندی سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کا رد پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل تک علمائے دیوبند کے ساتھ ہم عقیدہ کہلوانے والے غیر مقلد فرقہ کے علما نے مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی کے بعد ان کے پوتے قاری طیب دیوبندی کو بھی نہ چھوڑا اور ختم نبوت کے معروف معنی کا مخالف قرار دے دیا ہے، جو یقیناً دیوبندیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔

دیوبندیوں کے پیچھے نماز باطل ہے: مولوی زبیر علی زئی ودیگر اکابر غیر مقلد

علماء کا موقف

☆ مولوی زبیر علی زئی غیر مقلد اپنی کتاب ”بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم“ میں

لکھتے ہیں:

”دیوبندی حضرات اہل بدعت ہیں اور جہمیہ کی طرح ان کی بدعت شدید اور خطرناک ہے لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اہل حدیث، سلفی علماء کی یہی تحقیق ہے ہمارے شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر ایک رسالہ ”امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے“ لکھا ہے پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ اور شیخنا ابوالرجال اللہ دتہ السوہدروی الوزیر آبادی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل تھے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا بھی یہی موقف ہے“

(بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم صفحہ ۳۱ مطبوعہ مکتبۃ الحدیث، حضر، انک۔ طبع اول جولائی ۲۰۰۳ء)

☆ مولوی طیب الرحمان زیدی غیر مقلد کی کتاب ”نماز میں امام کون؟“ کے

مقدمہ میں مولوی زبیر علی زئی علمائے دیوبند کے بارے میں لکھتے ہیں:

”عرض ہے کہ شاذ مثالوں کو نکال کر تقریباً تمام دیوبندی علماء و طلباء اپنے اکابر (مثلاً امداد اللہ، گنگوہی، نانوتوی اور تھانوی وغیرہم) کا شدید دفاع کرتے ہیں اور انہی کے عقائد پر ہیں راقم الحروف نے وادی نارن میں ایک دیوبندی پیش امام کو جب اس کے اکابر کے کفریہ حوالے بتائے تو اُس نے کہا: اگر میرے اکابر نے یہ سب کچھ لکھا ہے تو میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور میں انہی کے مذہب پر ہوں“ (نماز میں امام کون؟ صفحہ ۵)

”البریلویت“ میں علمائے دیوبند کی وکالت کرنے والے مولوی احسان الہی

ظہیر غیر مقلد نے علمائے دیوبند کو قابلِ امامت نہ سمجھا:

☆ مولوی زبیر علی زئی غیر مقلد نے اپنے ماہنامہ ”الحدیث“ میں احسان الہی

ظہیر صاحب کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے:

”عمر فاروق قدوسی بن مولانا عبدالحق قدوسی رحمۃ اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب نے دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی بلکہ علیحدہ پڑھی اور یہ واقعہ ان کی شہادت سے تین دن پہلے کا ہے۔“

(ماہنامہ الحدیث، حضور، انک شماره نمبر 79 دسمبر 2011، صفحہ 38)

اگر یہ بات حقیقت ہے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہا حسان الہی ظہیر غیر مقلد صاحب کو بھی بالآخر علمائے دیوبند کی وکالت سے ہاتھ کھینچ کر اپنی کتاب ”البریلویت“ کی عملاً تغلیط کرنی پڑی۔

مولوی طالب الرحمان غیر مقلد کے نزدیک دیوبندیوں کے پیچھے نماز باطل ہے:

☆ مولوی طیب الرحمان زیدی غیر مقلد کی کتاب کے مقدمہ میں مولوی ڈاکٹر

طالب الرحمان زیدی غیر مقلد نے علماء دیوبند کے بارے میں لکھا ہی:

”علمائے دیوبند کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں ان علماء اہلحدیث کا فتویٰ (جنہوں نے ان کے عقائد کی تحقیق کی ہے) یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔“ (نماز میں امام کون؟ صفحہ ۱۷)

غیر مقلد وہابی علماء سے ایک اہم استفسار:

گستاخ رسول کے متعلق شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے؟ جو حکم بیان کریں اُس کی روشنی میں اُن غیر مقلد وہابی علماء (جنہوں نے اکابر دیوبند کی گستاخانہ عبارات کا رد کیا ہے) سے سوال ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد سمیت آپ کے وہ تمام اکابر جو علمائے دیوبند کی گستاخانہ کفریہ عبارات پر اطلاع کے باوجود بھی اُن کے حامی رہے یا اب بھی حامی ہیں اُن کے متعلق کیا حکم شرعی ہے؟ مدلل بیان کیجئے۔

تمت بِالْخَیْرِ